

اہل سنت کا نشان

بقیہ

JUNE 2005

مفت مسطور شاہ 134

# اولاد کو زندگی میں ہبہ کرنے کا طریقہ

از قلم

حضرت علامہ مفتی  
محمد عطاء اللہ نعیمی صاحب

جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار میٹھا در کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

نام کتاب : اولاد کو زندگی میں ہمہ کرنے کا طریقہ  
مؤلف : حضرت علامہ مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب  
ضخامت : 110 صفحات  
تعداد : 2000  
مفت سلسلہ اشاعت : 134

☆☆ ناشر ☆☆

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، بیٹھادر، کراچی۔ 74000

فون: 2439799

## انتساب

ببارگاہِ عظیم المرتبہ، واقف اسرار شریعت، محرم رازہای طریقت  
ختمیہ معرفت، حاجی الحرمین الشریفین و زائر المکانین الممتزکین

حضرت پیر خواجہ غلام رسول نقشبندی مجددی

علیہ الرحمۃ والرضوان

متوفی ۱۴۲۶ھ

## فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۷۹	کراہت کی صورتیں	۲	انتساب
۸۱	وجہ کراہت	۴	مقدمہ
۸۲	عدم اضرار	۱۳	ہبہ اور غلی کا معنی
۸۴	فضیلت دینی	۱۵	زندگی میں تقسیم
۸۷	علم کے سبب فضیلت	۱۶	اسلام کا درس
۸۷	طالب علم	۱۶	ظلم سے ممانعت
۸۸	عالم دین	۱۶	احادیث نبویہ علیہ التحیۃ والثناء
۸۸	عالم دین سے مراد	۲۹	حدیث نعمان وجابر رضی اللہ عنہما
۹۰	فائدہ	۲۹	اور محدثین کرام
۹۰	زیادہ ٹیکوکاری کے سبب	۳۰	کلمات حدیث
۹۱	زیادتی رشد کے سبب	۳۹	عدل کا حکم
۹۲	فاسق اولاد کا حکم	۴۱	مذہب اربعہ
۹۲	فاسق اولاد کو کتنا دے؟	۴۶	حرام کہنے والوں کی دلیل
۹۳	فاسق اولاد کو زیادہ نہ دینے کی وجہ	۴۷	استحباب کی دلیل
۹۴	فسق و فجور سے مراد	۴۸	مسادات استحباب پر محمول ہے
۹۵	فاسق اولاد کے لیے ترکہ	۵۲	اقول
۹۷	کل مال کسی ایک کو ہبہ کر دینا	۶۲	کیفیت عدل
۹۹	حکم قضا کا مطلب	۶۳	کیفیت عدل میں مذاہب
۱۰۱	گناہ	۶۵	احناف کے ہاں کیفیت عدل
۱۰۵	کل یا کچھ ورثہ کو محروم کرنا	۶۸	مختار قول
۱۰۸	مآخذ و مراجع	۷۱	امام محمد کی دوسری روایت
		۷۴	امام ابو یوسف کے قول کے
			مختار ہونے کی وجہ

## مقدمہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة على من لا نبي بعده وعلى آله الكرام وصحابته

العظام وعلى التابعين وتبعهم في الخير الى يوم القيام وبعد!

اللہ جل جلالہ! نے انسان کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل کو دنیا میں پھیلا یا۔ انسان چار عناصر سے مرکب ہے جن میں سے ہر ایک عنصر کو اعتدال میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ جب ایک عنصر دوسرے عنصر پر غالب آجائے تو باقی عناصر مغلوب ہو جائیں گے اور غالب عنصر اعتدال سے خارج ہو جائیگا جس کے سبب بدن انسانی میں تغیرات لاحق ہو جائیں گے مثلاً اگر قوت غضب غالب ہو جائے تو خون جوش میں آجاتا ہے، جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور بقول نبوی صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم ”غضب شروع میں پاگل پن ہوتا ہے جبکہ اسکا اختتام ندامت ہی پر ہوتا ہے“ اسی طرح کبھی صفراء غالب کبھی بلغم غالب جن کا غلبہ اعتدال بدن میں اور صحت جسد میں منفی تغیرات کا باعث ہوتا ہے جس طرح بدن انسان کی صحت کا خیال رکھنے کیلئے حفظان صحت کے اصول پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور قوام نظام بند کیلئے مادی پاکیزہ غذا کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح روح کو آلائش ذنوب و معاصی سے پاک رکھنے اور روحانی ترقی کی پیشرفت کیلئے عمل بالشرع کے روحانی غذائی نسخے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح انسان اپنی قوت اور عناصر کو مضبوط رکھنے کیلئے اور ذہنی سکون کو حاصل کرنے کیلئے بھوک مٹانے کی خاطر کھانے کا محتاج ہے

پیارے بجھانے کی خاطر پانی اور بدن کو خارجی گرمی اور موسمی حرارت و برودت سے بچانے کیلئے کپڑے کا محتاج ہے اور رات بسر کرنے کیلئے قیام گاہ یعنی گھر کا محتاج ہے اور ان تمام ضروریات کا انہیں ملنا یہ تمام انسانی قوانین اور آسمانی فرامین کی مطابق اسکا حق ہے اور بات بھی معقول ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے طاقت اور بدنی قوت، خواص و عادات میں ممتاز ہوتا ہے جبکہ بنیادی حقوق و احتیاجات سب کے برابر ہیں تو جو قوی ہوگا وہ کمزور سے بزور طاقت جملہ ضروریات پوری کرائیگا جبکہ کمزور اپنے حقوق کے دفاع سے عاجز رہیگا اور دونوں کے درمیان جنگ کی کیفیت ہوگی امن و بالابالا ہو جائیگا ظلم و زبردستی کا راج ہوگا تو اس وقت عدل و انصاف کی ضرورت پڑیگی اور انصاف کو لانے کیلئے امن و امان کے ضامن ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانی ضروریات پوری کرنے کا متکفل ہو اور ایسا ضابطہ حیات جو سب پر حاوی ہو اس لئے اگر ایک طبقہ قانون بنائے اور اپنے مسائل کے حل کیلئے اُس میں راہ نکالے تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو قابل قبول نہ ہو تو اس قانون کی بالادستی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ قانون سے کھیلنے والے قانون کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جائیں اور اس قانون کی حفاظت اور تنفیذ کی خاطر قوت کی ضرورت، فوج اور پولیس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جبری طور پر نافذ قانون امن اور اپنی من پسندی کی بات کو تو منوائیگا لیکن لوگوں کے دلوں کو جیتنے سے پھر بھی قاصر رہیگا تو اس عالی مقصد کیلئے ایک عالی شان سوسائٹی، پُر امن ماحول جس میں انسان کو سکون محسوس ہو اور جس مقصد کیلئے اس مہذب سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے انسان اُسی مقصد کی طرف متوجہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان عالی اغراض کیلئے اور ایسی ہی بہترین سوسائٹی کے قیام کیلئے کرۂ ارض پر حضرت آدم

علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا آپ کو اولاد عطا کی زمین کی ربع معمور پر آپ کی نسل کو منتشر کر دیا زمین کے مختلف حصوں میں اُن کو عیش و عشرت کے اسباب مہیا کئے اور مادی غذا کے ساتھ انہیں روحانی راہ پر چلانے کیلئے اور انہیں مقصد اصلی یاد دلانے کیلئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ہادی و رسل مبعوث فرمائے تاکہ انسانوں میں کوئی ایسا عمل نہ آنے دیں جس کے سبب مقصد اصلی کے حصول سے غافل ہو جائیں اور انسانوں پر وہ قوانین لاگو کریں جو ان کا علم رکھنے والے رب جلیل (جو کہ سب قانون دانوں سے زیادہ اپنی مخلوق کا علم رکھتا ہے اور انکی ضروریات کا ادراک تام رکھتا ہے) نے نازل کیا ہے۔ اور نبیوں کو اس کی تطبیق و تنفیذ کا حکم دیا ہے اور دشمن قانون کو زیر کرنے کیلئے انبیاء علیہم السلام کو قوت غالبہ عطا کی ہے جس کے سامنے عاقل کی عقل دنگ رہ جاتی ہے طاقت و رکی طاقت زور آزمائی کی زبردستی زور آزمائی بیچ ہو جاتی ہے وہ قوت معجزات کی ہے اور یہ قوت و طاقت تمام دنیا کی فوج و پولیس سے زیادہ قوی ہے۔ ہاں! مشرقی اقوام اور قزاقان وقت اگر فوجی طاقت کے ذریعے قوانین رائج کرنا چاہیں تو یقیناً ظاہر ابدان پر قانون کو نافذ کریں گے لیکن دلوں میں جگہ نہیں بنا سکیں گے جبکہ معجزات کو دیکھ کر عقل انسانی عاجز ہو کر حق کے سامنے اپنے تمام ہتھیار ڈال دیتی ہے اور تمام مصالح سے صرف نظر کر کے فقط اور فقط اخروی کامیابی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔

حق اور باطل کا مقابلہ روز اول سے جاری ہے باطل نے جب سے حق کی بے پناہ مقبولیت کو مشاہدہ کیا ہے بجائیکہ اسے تسلیم کرنے کے، حق کے دامن پر داغ لگانے کی ناکام کوشش شروع کر دی ہے مثلاً شیطان نے جب آدم علیہ السلام کی

مقبولیت آثار کا مشاہدہ کیا تو اسے اپنا سکون میں رہنا دشوار نظر آیا تو اس نے یہ تہمت لگادی کہ انسان تو خاک سے پیدا ہے (جس کی طبیعت میں عاجزی ہے) اور میں آگ سے پیدا ہوں (جس کی فطرت میں تکبر و تعلیٰ موجود ہے) تو میں اسکی طرف کیسے جھکوں؟ اسی طرح ہابیل و قابیل کا واقعہ اور فرعون کا کہنا کہ جس کی قوم ہماری غلام ہو اور وہ خود اپنی بات بھی صاف طور بیان نہ کر سکے (معاذ اللہ) ہم کیسے ان کی نبوت کا اقرار کریں اور دورِ حاضر کے فراعنہ کا کہنا کہ اسلام میں مساوات نہیں عورت کے حقوق کو پامال کر دیا گیا (معاذ اللہ) اسلام میں رواداری نہیں عورت کا حصہ میراث میں مرد سے کم ہے وغیرہ وغیرہ (معاذ اللہ) حالانکہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے اور عربوں کی قبل از اسلام حالت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو وہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو قوم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کرے اللہ کے گھر کا ننگا طواف کرے اور اپنی روزی دوسروں کو لوٹنے میں ڈھونڈے تو اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے کیا ظلم اور بربریت کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ سرمایہ افتخار کسی قوم کے نزدیک قتل عام ہو یہاں تک کہ قبرستانوں کے مردے شمار کئے جائیں اور عبادت کے مقام پر آکر اللہ جل جلالہ خلاق کائنات کی جگہ اپنے باپ دادا کے ذکر کا حلقہ لگا دیا جائے تو وہ کونسا نبی معظم ﷺ تھا کہ جن کی بعثت نے نفرتوں کو محبت، قتال کو امن و امان، بشر دشمنی کو انسان دوستی سے تبدیل کر دیا اور جس نے ابتداء زندگی میں حجر اسود شریف کی تنصیب پر ہونے والے جھگڑے کو اپنی معقولیت اور خدا داد صلاحیت کی برکت سے اتفاق اور وحدت سے حل و فصل کر کے رکھ دیا جنہوں نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے لیے جان نثار بنا دیا، جنہوں نے مکی اور مدنی مہاجر اور انصاری کے



فرق کو عقد مواخات کے ذریعے ختم کر دیا۔

اور وہ کونسا دین تھا جس نے عورت کو اس کا مقام و احترام دلایا۔ یہودی حالت حیض میں عورت سے نفرت کرتے تھے ان کے برتن، بستر، و جامہ و لباس کو اپنے لباس و اشیاء استعمال سے الگ کرتے تھے اور انہیں منفور انداز و دید سے دیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ شوہر کی فوتگی پر اور مورث کے ترکہ میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا لیکن اسلام نے ان کے قتل کو گناہ حرام اور خطا کبیرہ قرار دیا ہے، ان کی اولاد کیلئے ان کے پیروں کے تحت زمین کو قطعہ جنت قرار دیا۔ ان کی تربیت کو جنت کی ضمانت قرار دیا۔ حالت حمل میں ان کے ہر اٹھائے جانے والے قدم کو عبادت کے ثواب کے برابر قرار دیا۔ اور مال مہر پر اس کو حاکم بنایا نکاح میں ان کی قبولیت اور مرضی کو دخل دیدیا اور دین محمدی متین ثابت کیا کہ عورت فقط مرد کی تسکین سہولت کا محل نہیں بلکہ باقاعدہ معاشرہ اور سوسائٹی کی اہم جزء ہے اور گھریلو معاملات میں باختیار ہے اپنے مال اور مملوکات کی متصرف ہے اور اُسے اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کیلئے تمام جائز حقوق حاصل ہیں اگر کسی نے کسی بھی طریقہ پر ان کو زنا پر مجبور کیا تو اگر زانی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے ہیں اور اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار ہے یہ سب عورت کے احترام اور تقدس اور عصمت کی حفاظت کی خاطر جبکہ مغربی دنیا میں عورت کو فقط آلہ تسکین شہوت سمجھا جاتا ہے ان کی عصمت محفوظ نہیں ہے حتیٰ کہ اسلام نے عورت کا نان نفقہ، انہیں گھر دینا، ان کی تداولی کرنا انہیں موافق موسم لباس فراہم کرنا مرد (شوہر) پر فرض قرار دیا ہے جبکہ یورپی ماحول میں زوجین اگر بس میں سفر کرتے ہیں تو بیوی اپنا کرایہ دیتی ہے شوہر اپنا، اگر ہوٹل پر کھانا کھانا ہو تو ہر ایک اپنے مصارف کا ذمہ دار خود ہوتا ہے اور میاں بیوی کے

درمیان تعلق بھی اجنبیت کا شکار ہوتا ہے نہ صرف یہ بلکہ اجنبیت ہر چیز پر چھائی ہے جس کا سبب یہ ہے کہ:-

۱۔ نکاح شرعی کا نہ ہونا۔

۲۔ ناجائز تعلقات کا شیوع اور عموم۔

۳۔ بیٹا اپنے باپ کا نام نہیں بلکہ ماں کا نام استعمال کر رہا ہوتا ہے جسکی وجہ عدم ثبوت نسب ہے۔

۴۔ اسلام کم از کم بچے کو دو سال دودھ پلانا عورت پر لازم قرار دیتا ہے جسکے ذریعے بچے کے بطن میں ماں کے دودھ کے ساتھ (جو کہ اس کے بدن کا حصہ ہے) ماں سے تعلق اور پیار بھی داخل ہوتا ہے جبکہ یورپ میں مائیں دودھ نہیں پلاتیں بلکہ مختلف ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم حیوانات کا خشک شدہ دودھ بچے کو پلایا جاتا ہے۔

مسلمان ماں اپنے بچے کی تربیت کو عبادت اور ذمہ داری سمجھتی ہے اور زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے جبکہ کفار یورپ اپنے کتے سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ یہودی اپنے مال اور املاک کو اپنے کتے کے نام کرتے ہیں اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو کتے کے پاس سارا مال رہ جاتا ہے جس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ قانون کے مطابق ایک خاتون تو میراث نہیں لے سکتی ہے اور حیوان وارث بن جاتا ہے کہ عورت کا کیا مقام اور کیا عزت ہے؟ یہودیوں کے نزدیک لیکن پھر بھی سارا عالم تیغ پا ہے تو اسلام کے خلاف۔

جمعیت اشاعت اہل سنت و جماعت کے شعبہ افتاء کے رئیس محترم مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب مدظلہ العالی نے یہ ثابت کیا ہے ہر انسان اپنے مال کا مالک ہے

اور اُس میں جس طرح تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے! وان

ليس للانسان الا ما سعى - النجم: ۳۹

ترجمہ:- اور یہ کہ آدمی نہ پایگا مگر اپنی کوشش

اور بحکم ما کسبتم :-

ترجمہ:- اور تمہارے لئے ہے جو تم نے کمایا ہے (خواہ ہاتھ کی کمائی ہو یا اعمال ہوں)۔

البقرة: ۱۳۴

اور مال کی تقسیم دو طرح ہے۔

۱۔ (اختیاری جب اپنی زندگی اور صحت میں ہو)

۲۔ اضطراری (جب انسان انتقال کر جائے اور اس کا ترکہ تقسیم ہو جائے)

انسان اپنی زندگی اور صحت میں خود مختار ہے کہ سارا مال خرچ کرے اپنی اولاد پر اور یا اپنی ضروریات کی راہ میں یا اسے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرے تاکہ بعد از مرگ تنازعہ نہ رہے اور بعد الہمات تو مال کا تصرف ورثہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر اُس میں عورت کا حصہ اپنے بھائی سے آدھا ہے تو اسلام پر کیا اعتراض اسلام نے تو آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ سارا مال اپنی موت پر چھوڑیں بلکہ آپ اپنی زندگی میں مال تقسیم کیجئے بیٹوں بیٹیوں کو ایک جیسے حصے دیجئے کسی کو بھی محروم نہ رکھیں نہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیں بلکہ سب کو یکساں دیں اسلئے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنی اولاد پر مال خرچ کرے۔ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ساری مخلوق کی کفالت اللہ عزوجل فرماتا ہے تو تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو اپنی کفالت کے ماتحتوں کیساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

فرمان ہے: لو كنت مفضلاً لفضلت النساء (فتح الباری ۵/۲۶۸)

اگر میں تقسیم مال میں اضافہ حصہ دینے کا قائل ہوتا تو عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیتا۔

اور عورت کو اسلام نے اتنی عظمت دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کا تذکرہ اپنے تاریخی خطبہ حجتہ الوداع میں بھی کیا حضرت عمرو بن احوص سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے موقع پر اللہ کی ثناء کے بعد دوران وعظ فرمایا: خبردار! خواتین کیساتھ حسن سلوک کیا کریں اسلئے کہ یہ تمہاری قید نکاح میں ہیں..... خبردار! ان کا حق یہ ہے کہ آپ انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں۔ (جامع ترمذی نمبر ۱۱۶۳، ریاض الصالحین، ص ۱۲۳، مسند احمد ۵/۲۷۵)

حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ: ہم میں سے کسی ایک کی بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ہے کہ جب آپ کھائیں تو ان کو بھی کھلائیں جب آپ لباس پہنیں تو ان کو بھی پہنائیں اور انہیں ادب سکھاتے وقت، چہرے پر نہ ماریں اور نہ انہیں چہرے بد نما ہونے کی بددعا دیں اور ناچاقی کی صورت میں اگر بستر کو چھوڑیں تو ٹھیک ہے لیکن پورا گھر نہ چھوڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنی بیویوں کیساتھ حسن سلوک والا ہو۔ (جامع ترمذی ۱۱۶۳، مسند احمد ۵/۲۵۰)

حضرت ایاس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی لونڈیوں (بندیوں) کو مت مارا کریں تو حضرت عمر رضی



## اولاد کو زندگی میں ہبہ کرنے کا طریقہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ و تقدس الجواب

زندگی میں جو مال کی تقسیم ہوتی ہے اُسے ہبہ یا عطیہ یا نُحْلٰی کہا جاتا ہے۔

### ہبہ اور نُحْلٰی کے معنی:

علامہ عبداللہ بن محمود موصلی متوفی ۶۸۳ھ لکھتے ہیں:-

"وهی العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق"

(کتاب الاختیار لتعلیل المختار، الجزء (۳) کتاب الہبہ، ص ۵۸)

یعنی، ہبہ وہ عطیہ ہے جو تقدم استحقاق سے خالی ہو۔

اور عربی زبان میں "النُّحْلٰی" کے معنی عطیہ اور بخشش کے ہیں چنانچہ

"النَّجْد" میں ہے:

"النُّحْلُ: واحد نَحْلَةٍ: عطیہ، بخشش اور النُّحْلُ وَالنُّحْلٰی وَالنُّحْلَانُ:

عطیہ، بخشش اور النُّحْلَةُ وَالنُّحْلَةُ: عطیہ، ہبہ، عورت کو مہر دینا"

اور قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:-

"نَحَلْتُ ابْنِي نَحْلًا" اُیْ اَعْطَيْتُ، والنحلة: العطية بغير عوض یعنی النحلة:

بلا عوض عطیہ۔

(إكمال المعلم بفوائد مسلم، المجلد (۵)، کتاب الہبات، باب كراهة تفضيل

بعض الأولاد في الهبة، ص ۳۵۲)

عطیہ اور نُحْلٰی دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں چنانچہ علامہ نور

الدین علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۲ھ لکھتے ہیں:-

اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور عورتیں اپنے شوہروں پر بہت جراتمند ہو گئیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (بوقت ضرورت ادب سکھانے کیلئے) انہیں مارنے کی اجازت دی تو بہت ساری عورتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً میری گھر والیوں کے پاس بہت ساری خواتین اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئیں تھیں ایسے شوہر تمہارے لوگوں میں سے نہیں ہیں (ابوداؤد (۱۲۴۶) ابن ماجہ (۱۹۸۵) ابن حبان (۱۳۱۶) ریاض الصالحین، ص ۱۲۵)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: دنیا فائدہ ہے اور دنیا کا بہترین فائدہ و متاع نیک خاتون ہے۔ (مسلم شریف حدیث ۱۳۶۷، ریاض الصالحین، ص ۱۲۵)

انصاف سے دیکھنے والے انسان کو بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق کی کتنی پاسداری کی ہے

محترم مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نہایت بسط اور تفصیل کیساتھ اس اہم موضوع کے مختلف جوانب کو زیر بحث لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین

محمد ذاکر اللہ نقشبندی

رکن مرکز تحقیقات النصوص الشرعیہ

والثقافت الاسلامیہ

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

لأن النحلى والعطية يستعملان فى التملك بغير عوض

(فتح باب العناية فى شرح كتاب النقاية، المجلد (٣)، كتاب (١٥) الهبة،

ص ٣٠٨)

یعنی، کیونکہ نحلی اور عطیہ (دونوں ایک ہی معنی) تملیک بلا عوض میں استعمال ہوتے ہیں۔

اسی لئے نحلی کا معنی عطیہ کیا گیا ہے چنانچہ امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی متوفی ٥٣٧ھ لکھتے ہیں:-

نَحْلُنِي أَيْ أُعْطَانِي

(طلبة الطلبة فى الإصطلاحات الفقهية، كتاب الهبة، ص ٢٣٣)

یعنی، نحلی کا معنی ہے اُعطانی (اس نے مجھے عطا کیا)

اور نحلی کا عطیہ کے معنی میں استعمال قرآن کریم میں بھی مذکور ہے چنانچہ وصی احمد محدث سورتی لکھتے ہیں:-

نحلى: بضم النون العطية، وكذا النحل والنحلة، ومنها قوله تعالى:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: ٤/٤)

قاله القارى (حاشية السورتى على شرح معانى الآثار، المجلد (٤)، كتاب الهبة

والصدقة، باب الرجل ينحل بعض بنیه دون بعض، ص ٨٥)

یعنی، نحلی ضمہ نون کے ساتھ بمعنی عطیہ کے ہے اسی طرح نحلی اور نحلہ ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔

(کنز الایمان)

اور حدیث شریف میں بھی زندگی میں اولاد کو مال وغیرہ دینے کو عطیہ اور نحلی کہا گیا ہے جیسا کہ ”مشکاۃ المصابیح“ (کتاب البیوع، باب (١٧) برقم ٤/٣٠١٩) میں ہے:-

اور جو مرنے کے بعد مال کی تقسیم ہوتی ہے اُسے ترکہ اور ورثہ کہا جاتا ہے جس کی تقسیم کے اصول و ضوابط قرآن کریم کی سورہ نساء میں ذکر کئے گئے زندگی میں تقسیم:

انسان اپنی زندگی میں بحالت صحت اپنا مال جسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے اسی طرح اولاد میں بھی اپنے مال کی تقسیم جس طرح چاہے کر سکتا ہے اس کی تقسیم نافذ ہو جائے گی چنانچہ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی ٤٥٨ھ لکھتے ہیں:-

بکیر نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عبدالرحمن بن قاسم نے کہ ان کے والد اپنی کچھ اولاد کو اپنے مال و اسباب میں سے حصہ دیتے سوائے دوسروں کے اور فرمایا خبر دی ہمیں، وہب نے، وہ فرماتے ہیں خبر دی مجھے سعید بن ابی ایوب نے، وہ روایت کرتے ہیں بشیر بن ابی سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں عمر بن منکدر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ

یعنی، ہر مال والا اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے،

ابن وہب نے فرمایا:

اس مال کا جو چاہے کرے۔

(السنن الکبری للبیہقی، المجلد (٦)، کتاب الهبات، باب (١٠) ما يستدل به علی

أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب ، ص ٢٩٦ ، الحديث (١٢٠٠٧)

## اسلام کا درس:

مگر اسلام نے اولاد کو مال و اسباب دینے میں عدل و مساوات کا درس دیا ہے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین ابوبکر مسعود کا سنی حنفی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:-

ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلي ، لقوله سبحانه تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ٩٠/١٢)  
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المجلد (٨) ، كتاب الهبة ، فصل : في شرائط الهبة ، ص ١١٣)

یعنی ، مرد کو چاہیے کہ وہ اولاد کو دینے میں انصاف کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

”بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا“

## ظلم سے ممانعت:

اور کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا حدیث شریف میں ظلم قرار دیا گیا ہے اور برابر دینے کا حکم دیا گیا چنانچہ حدیث شریف میں ہے:-

## احادیث نبویہ:

(١) عن النعمان بن بشير:-

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا

غُلَامًا ، فَقَالَ ”أَكُلْ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ ؟“ قَالَ : لَا ، قَالَ : ”فَارْجِعْهُ“

رواه البخاری فی ”صحیحه“ فی کتاب البهۃ ، باب الهبة للولد (برقم: ٢٥٨٦) ، ورواه مسلم فی ”صحیحه“ ، وفيه : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

أَكُلْ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟

( کتاب البهات ، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، برقم: ١٦٢٣/٩ )

یعنی ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے ، عرض کی: میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بہہ کیا ہے ، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس کی مثل بہہ کیا ہے؟ عرض کی: نہیں ، فرمایا: (اس بہہ سے) رجوع کر لے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ”فارجعہ“ کے تحت علامہ ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی لکھتے ہیں:-

ومنها أنه لو نحل البعض وفضله ، يصح ، لقوله ﷺ : ”إِرجِعْهُ“ ولو لم

يصح لما احتاج إلى الرجوع

( شرح السنة ، المجلد (٤) ، كتاب العطايا والهدايا ، باب الرجوع في الهبة للولد

الخ ، ص ٤٢٦ ، برقم: ٢١٩٥ )

یعنی ، اگر کچھ اولاد کو عطیہ دے اور (بہہ میں) اُسے ترجیح دے تو درست ہے کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”رجوع کر لے“ اور اگر بہہ صحیح نہ ہوتا تو رجوع کی حاجت نہ ہوتی۔

(٢) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر فرمایا:-

أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "أَعْطِيتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟"، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

رواه البخاری فی "صحیحہ" فی کتاب الہبة، باب الإشهاد فی الہبة (برقم: ۲۵۸۷)

یعنی، میرے والد نے مجھے عطیہ دیا، تو (میری والدہ) عمرہ بنت رواحہ نے کہا: میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم (میرے بیٹے کے اس ہبہ پر رسول ﷺ کو گواہ نہ کرو، تو میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی: میں نے عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو عطیہ دیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس پر اے اللہ کے رسول! آپ کو گواہ بناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم نے اپنی ساری اولاد کو اس کی مثل دیا ہے؟" (حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے) عرض کی: نہیں، فرمایا: "اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو" راوی کہتے ہیں وہ لوٹ کر واپس آئے اور عطیہ واپس لے لیا۔

(۳) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہا بیان فرماتے ہیں:-

سَأَلْتُ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَأَ اللَّهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: أُمُّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلْتَنِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ لِهَذَا، قَالَ: "أَلَاكَ

وَلَدٌ سِوَاهُ؟" قَالَ نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَهُ: "لَا تُشْهَدُ نَبِيَّ عَلَى جَوْرٍ"

رواه البخاری فی "صحیحہ" فی کتاب الشَّہَادَاتِ، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (برقم: ۲۶۵۰)

یعنی، میری والدہ (عمرہ بنت رواحہ) نے میرے والد (بشیر) سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ مال کو ہبہ کریں، (میرے والد نے ایک سال تک یہ معاملہ ملتوی رکھا)، پھر انہیں اس کا خیال آیا تو انہوں نے کچھ مال مجھے ہبہ کیا، تو میری والدہ نے کہا: میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی (جب تک میرے بیٹے کے ہبہ پر) نبی ﷺ کو گواہ نہ بناؤں، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا حالانکہ میں اس وقت نو عمر لڑکا تھا، پس مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، عرض کی: یا رسول اللہ! اس کی ماں (عمرہ) بنت رواحہ نے کہا: میں اپنا کچھ مال اس کو ہبہ کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کیا تمہاری اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟" انہوں نے عرض کی: جی ہاں، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ" اسی طرح اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی "جامع و سنن" (أبواب الأحكام عن رسول ﷺ، باب: ماجاء في النحل والتسوية بين الولد، برقم: ۱۳۶۷) میں روایت کیا اور کہا:-

هذا حديث حسن صحيح

اور ابن ماجہ نے اپنی "سنن" (أبواب الہبات، باب الرجل ينحل ولده، برقم: ۲۳۷۵) میں روایت کیا، اس روایت کی بنا پر کہا گیا کہ:-

حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کا عطیہ نافذ نہ ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں

رواہ مسلم فی ”صحیحہ“ فی کتاب الہبات ، باب کراہیۃ تفضیل بعض الأولاد فی

الہبۃ (برقم: ۱۶۲۳/۱۲)

یعنی، فرماتے ہیں: ان کے والد نے انہیں ایک غلام (بطور ہبہ) دیا، تو نبی ﷺ نے ان سے (یعنی حضرت نعمان سے) فرمایا: ”یہ غلام کیسا ہے؟“ آپ نے عرض کی: میرے والد نے مجھے عطا کیا ہے، تو آپ ﷺ نے میرے والد سے) فرمایا: ”تم نے اس کے تمام بھائیوں کو (غلام) دیا ہے جیسا کہ اسے دیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: نہیں، فرمایا: ”پھر اس کو واپس لے لو“

(۶) عن النعمان بن بشیر :-

قال : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهَدَهُ عَلَيَّ صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ”أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كَلِيمٌ؟“ قَالَ : لَا ، قَالَ : ”اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ“ ، فَارْجَعَ أَبِي ، فَردَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

رواہ مسلم فی ”صحیحہ“ فی کتاب الہبات ، باب کراہیۃ تفضیل بعض الأولاد فی

الہبۃ (برقم: ۱۶۲۳/۱۳)

یعنی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: میرے والد نے مجھے اپنا کچھ مال دیا، تو میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا: میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ کر لو، تو میرے والد مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گئے تاکہ وہ مجھے دیئے ہوئے صدقہ پر آپ ﷺ کو گواہ کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: ”کہا تم نے اپنی تمام اولاد کے ساتھ ایسا کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: نہیں، آپ نے فرمایا:

مشورہ کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے منع فرمایا اور وہ اس سے رُک گئے۔

(۴) عن نعمان بن بشیر قال :-

أتى بى أبى إلى رسول الله ﷺ فقال : إني نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فقال : ”أَكُلَ بَيْنَكَ نَحَلْتُ؟“ قَالَ : لَا ، قَالَ : ”فَارُدُّهُ“

رواہ مسلم فی ”صحیحہ“ فی کتاب الہبات ، باب کراہیۃ تفضیل بعض الأولاد فی

الہبۃ (برقم: ۱۶۲۳/۱۰)

یعنی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میرے والد مجھے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں لے گئے، عرض کی: میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ہبہ کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: نہیں، تو فرمایا: ”اس کو بھی واپس لے لو“۔

اس روایت اور اس کی مثل روایات کی بنا پر کہا گیا کہ اگر کوئی شخص بلاوجہ شرعی اپنی کسی اولاد کو ہبہ میں ترجیح دے تو اس کا ہبہ درست ہو جائے گا کیونکہ حضور ﷺ کا حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو ہبہ سے رجوع کا حکم فرمانا اس کی دلیل ہے کہ ہبہ درست ہو جاتا ہے اور اگر ہبہ درست نہ ہوا ہوتا تو انہیں رجوع کا حکم نہ دیا جاتا

(۵) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی:-

قال : وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ”مَا هَذَا الْغُلَامُ؟“ قَالَ : أَعْطَانِيهِ أَبِي ، قَالَ : ”فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أُعْطِيَتْهُ كَمَا أُعْطِيَتْ هَذَا؟“ قَالَ : لَا ، قَالَ : ”فَرُدَّهُ“

”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو“ تو میرے والد لوٹ گئے، اور وہ صدقہ واپس لے لیا۔

(۷) امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ:-

أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَّاهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتُ لِابْنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غَلَامٌ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أُعْجِبَهَا أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَى الْوَهْبِ وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”يَا بَشِيرُ! لَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟“ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ ”أَكُلْتَهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟“ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهَدْنِي إِذَا، لَا أُشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ“

رواہ مسلم فی ”صحیحہ“ فی کتاب الہبات، باب کراہیۃ تفضیل بعض الأولاد فی الہبۃ (برقم: ۱۶۲۳/۱۴)

یعنی، انکی والدہ حضرت (عمرہ) بنت رواحہ رضی اللہ عنہما نے ان کے والد (حضرت بشیر رضی اللہ عنہ) سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال سے کچھ ان کے بیٹے (نعمان) کو ہبہ کریں، انہوں نے ایک سال تک اس معاملہ کو ملتوی رکھا، پھر انہیں اس کا خیال آیا، تو (میری والدہ) نے کہا: میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تم نے میرے بیٹے کو جو ہبہ کیا ہے اس پر رسول اللہ ﷺ کو گواہ نہ کر لو، تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، میں ان دنوں نو عمر لڑکا تھا، پس وہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر

ہوئے، عرض کی: یا رسول اللہ! اس کی ماں بنت رواحہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ کر لوں جو میں نے اپنے بیٹے کو ہبہ کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے بشیر! تمہاری اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟“ انہوں نے عرض کی: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے ان سب کو اس کی مثل ہبہ کیا؟“ انہوں نے عرض کی: نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو مجھے گواہ نہ بنا کہ میں ظلم کے حق میں گواہ نہ بنوں گا۔“

(۸) عن النعمان بن بشیر:-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا بُنُونٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ”فَكُلُّهُمْ أُعْطِيتَ مِثْلَ هَذَا؟“ قَالَ: لَا، قَالَ: ”فَلَا أُشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ“ وَفِي رَوَايَةٍ ”لَا تُشْهَدُ نِي عَلَى جَوْرٍ“

رواہ مسلم فی ”صحیحہ“ فی کتاب الہبات، باب کراہیۃ تفضیل بعض الأولاد فی الہبۃ (برقم: ۱۵-۱۶/۱۶۲۳)

یعنی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تمہارے اس کے علاوہ اور بھی بیٹے ہیں؟“ انہوں نے عرض کی: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو تم نے ان سب کو اس کی مثل دیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر میں ظلم کے حق میں گواہی نہیں دوں گا“ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: ”مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔“

اس کی مثل احادیث کے بارے میں علامہ محمد بن یوسف کرمانی متوفی

۷۸۶ھ لکھتے ہیں:-



وأجيب بأن الجور هو الميل عن الاعتدال والمكروه أيضاً جور، وأنه معارض بما ثبت أنه قال "أَشْهَدُ عَلَيْهِ غَيْرِي" وقد نحل الصديق عائشة، و عمر عاصماً دون سائر أولادهما

(البخارى بشرح الكرماني، المجلد (٥)، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، ص ١٢٥)

یعنی، اس جواب بایں طور دیا گیا کہ "جور" اعتدال سے غیر کی طرف مائل ہونا ہے اور مکروہ بھی جور ہے اور یہ اس کے معارض ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "اس پر میرے علاوہ دوسرے کو گواہ کرلو" اور حضرت صدیق اکبر ﷺ نے (اپنی لخت جگہرام المؤمنین) عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت عمر ﷺ نے (اپنے بیٹے) عاصم ﷺ کو عطیہ دیا سوائے اپنی تمام اولاد کے۔

امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:-

"لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" ليس فيه أنه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أم مكروهاً

(الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، برقم: ۱۶۲۳/۱۵)

یعنی، اس میں اس پر دلالت نہیں کہ یہ حرام ہے کیونکہ "جور" استواء و اعتدال سے اس کے غیر کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں پس ہر وہ جو اعتدال سے نکل جائے وہ

"جور" ہے چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ۔

(۹) عن النعمان بن بشير قال:

أُتِلِقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِشْهَدْ قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: "أَكُلْ بَيْتِكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَأَشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"، ثُمَّ قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءٌ؟" قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَلَا إِذَا"

رواه مسلم في "صحيحه" في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة (برقم: ۱۷/۱۷۲۳)

یعنی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میرے والد مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اٹھا کر لے گئے، اور عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اس پر گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو اپنے مال میں سے یہ یہ چیز دی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: "کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو اتنا دیا ہے جتنا نعمان کو دیا ہے؟" انہوں نے عرض کی: نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: "اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بناؤ" پھر فرمایا: "کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تیرے ساتھ حسن سلوک میں تمہاری سب اولاد برابر ہو؟" انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں، فرمایا: پھر ایسا مت کرو۔

امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی متوفی ۳۲۱ھ لکھتے ہیں کہ:-

حضور ﷺ کا حضرت بشیر ﷺ کو فرمانا کہ "اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ

بناؤ“ یہ اس کی دلیل ہے کہ ملک ثابت نہ ہوتی تو یہ قول صحیح نہ ہوتا۔ اور لکھتے ہیں اس فرمان میں یہ بھی احتمال ہے کہ میں امام ہوں اور گواہ بننا امام کی شان سے نہیں، اس کی شان سے تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور آپ ﷺ کے اس فرمان میں عقد (ہبہ) کے درست ہونے کی دلیل ہے۔

(شرح معانی الآثار، المجلد (۴)، کتاب الہبۃ والصدقۃ، باب الرجل ینحل بعض ینہ دون بعض، الحدیث: ۵۸۳۵، ص ۸۵-۸۶)

اور اسے حافظ احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی امام طحاوی سے نقل کیا ہے (فتح الباری شرح صحیح البخاری، المجلد (۵)، کتاب الہبۃ، باب (۱۳) الإیضاد فی الہبۃ، الحدیث: ۲۵۸۷، ص ۲۶۸)

(۱۰) عن النعمان بن بشیر قَالَ:

نَحَلْنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ

قال ابن عون: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا، فَقَالَ إِنَّمَا حَدَّثْتُ أَنَّهُ قَالَ:

قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

(رواه مسلم في "صحيحه" في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة (برقم: ۱۶۲۳/۱۸))

یعنی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ:

مجھے میرے والد نے کچھ عطیہ دیا، پھر رسول اللہ ﷺ کو اس پر گواہ بنانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو یہ دیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: نہیں، فرمایا: ”کیا تم ان سے (اپنے لئے) ایسا حسن سلوک نہیں چاہتے جیسا کہ اس سے چاہتے ہو؟“ انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں، فرمایا: ”پھر میں اس پر گواہی نہ دوں گا۔“

راوی ابن عون کہتے ہیں میں نے محمد (بن اسماعیل بخاری) کو حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: مجھے یہ حدیث اس طرح پہنچی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی تمام اولاد کو یکساں دو۔“

امام قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:-

حدیث شریف میں ”قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ“ کا معنی ہے عطیہ وغیرہ میں بعض اولاد کو بعض پر ترجیح نہ دو اور بعض اولاد کو بعض سے جدا نہ کرو۔

(إكمال المعلم بفوائد مسلم، كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل الخ، (برقم: ۱۶۲۳/۱۸))

اور امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:-

یہ لفظ با کے ساتھ ”جو مقاربہ“ سے ہے اور نون کے ساتھ جو ”مقارنت“ سے ہے مروی ہے۔ (یعنی قاربوا اور قارنوا) اس کا معنی ہے: سوووا بینہم فی أصل العطاء وفي قدر یعنی اولاد کے مابین اصل عطا اور اس کی مقدار میں مساوات کرو۔

(الدنیاء علی صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب الهبات، باب کراهیة تفضیل الخ

برقم: ۱۸/۱۶۲۳)

(۱۱) عن جابر، قَالَ:

قَالَتْ امْرَأَةٌ بَشِيرٌ: اِنْحَلْ اَبْنِي غُلَامَكَ، وَاَشْهَدْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: اِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي اَنْ اَنْحَلْ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: اَشْهَدْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "اَلَهُ اُخُوَّةٌ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اَكُلْتُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتُهُ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَلَيْسَ يَصْلَحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا اَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ"

رواه مسلم في "صحیحه" فی کتاب الهبات، باب کراهیة تفضیل بعض الأولاد فی الهبة (برقم: ۱۹/۱۶۲۴)

یعنی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: حضرت بشیرؓ کی زوجہ (عمرہ بنت رواحہ) نے کہا: میرے بیٹے کو اپنا غلام دے دو، اور میرے لئے رسول اللہ ﷺ کو گواہ بناؤ، پس وہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی: فلاں کی بیٹی نے مجھے کہا: کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام دے دوں، اور کہا: میرے لئے رسول ﷺ کو گواہ کرلو، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: "کیا اس کے بھائی ہیں؟" انہوں نے عرض کی: ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: "کیا تم نے ان سب کو اتنا دے دیا جتنا اس کو دیا ہے؟" عرض کی: نہیں، فرمایا: پھر یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں حق کے سوا کسی اور

چیز پر گواہی نہیں دیتا۔"

حدیث نعمان وجابر رضی اللہ عنہما اور محدثین کرام:

محدثین کرام نے حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ان احادیث کو مختلف طرق سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ صحاح، سنن و مسانید وغیرہا میں راویت کیا ہے جیسا کہ امام ابوداؤد نے اپنی "سنن" کے کتاب البیوع والإجارات، باب الرجل یفضل بعض ولده فی النحل (برقم: ۳۵۴۲۔ ۳۵۴۳۔ ۳۵۴۴۔ ۳۵۴۵) میں، ترمذی نے اپنی "جامع و سنن" کے أبواب الأحکام عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء فی النحل والتسویة بین الولد (برقم: ۱۳۶۷) میں، نسائی نے "سنن البیہقی" کے کتاب النحل، باب اختلاف الناقلین لخبر النعمان بن بشیر فی النحل (برقم: ۳۷۰۲۔ ۳۷۰۳۔ ۳۷۰۵۔ ۳۷۰۶۔ ۳۷۰۸۔ ۳۷۰۹۔ ۳۷۱۰۔ ۳۷۱۱۔ ۳۷۱۲۔ ۳۷۱۳۔ ۳۷۱۴۔ ۳۷۱۵۔ ۳۷۱۶۔ ۳۷۱۷) میں، اور "السنن الکبریٰ" کے کتاب النحل، باب ذکر اختلاف الفاظ الناقلین لخبر النعمان بن بشیر فی النحل (برقم: ۱/۶۴۹۹۔ ۱۶/۶۵۱۴) میں، ابن ماجہ نے اپنی "سنن" کے أبواب الهبات، باب الرجل ینحل ولده (برقم: ۱۷۷۶)، احمد نے "المسند" (۲۶۸/۴) میں، ابن حبان نے اپنی سند میں بترتیب صحیح ابن حبان "الإحسان" (برقم: ۵۰۷۶۵۰۷۵۔ ۵۰۷۷۰۵۰۷۹) میں،

- ۵۰۸۰ - ۵۰۸۱ - ۵۰۸۲) میں، طحاوی نے ”شرح معانی الآثار“ (۸۴/۴)

۸۵ - ۸۶ - ۸۷، کتاب الہبة والصدقة، باب الرجل ينحل بعض دون

بعض) میں، دارقطنی نے اپنی ”سنن“ کے کتاب البيوع (برقم: ۱۷۴) میں،

بیہقی نے ”السنن الکبریٰ“ کے کتاب الہبات جماع أبواب عطية الرجل

ولده، باب السنة التسوية بين الأولاد في العطية (برقم: ۱۱۹۹۲) میں،

بلغوی نے ”شرح السنّة“ (فی کتاب العطايا والهدايا، باب الرجوع فی الهبة

للولد والتسوية بين الأولاد في النحل، برقم: ۲۱۹۵) میں اور ان کے علاوہ

شافعی اور حمیدی نے روایت کیا ہے۔

حضرت بشیرؒ نے جب اپنے ایک بیٹے کو اپنا کچھ مال ہبہ کیا اور اس پر نبی

ﷺ کو گواہ کرنا چاہا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی قدر دیا ہے تو عرض کی: نہیں تو آپ ﷺ اس

پر گواہ بننے کو پسند نہ فرمایا چنانچہ ”سنن نسائی“ میں ہے:-

فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ

(برقم: ۳۷۰۶ والسنن الکبریٰ، برقم: ۶/۶۵۰۴)

یعنی، تو نبی ﷺ نے اس پر گواہ بننے کو برا جانا۔

کلمات حدیث:

اور کیا ارشاد فرمایا اس کے متعلق مختلف روایات میں مختلف کلمات مروی ہیں

چنانچہ ملاحظہ ہوں:-

(۱) فَلَيْسَ يَصْلَحُ هَذَا

(صحیح مسلم، برقم: ۱۶۲۴/۱۹، و سنن أبی داؤد، برقم: ۳۵۴۵، والسنن

الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۱۹۹۷)

☆ پھر یہ ٹھیک نہیں۔

(۲) فَلَا إِذَا

(صحیح مسلم، برقم: ۱۶۲۳/۱۷، و سنن النسائی، برقم: ۳۷۱۰، والسنن

الکبریٰ للنسائی، برقم: ۲۵۰۷/۹، و سنن ابن ماجہ، برقم: ۲۳۷۵، و شرح السنّة

للبلغوی، برقم: ۲۱۹۵، و شرح معانی الآثار، برقم: ۸۵۳۸، السنن الکبریٰ

للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۱ و السنن الدارقطنی، برقم: ۲۹۴۲، والإحسان بترتيب

صحیح ابن حبان، برقم: ۵۰۸۴)

☆ پھر ایسا مت کرو۔

(۳) هَذَا جَوْزٌ

(سنن أبی داؤد، برقم: ۳۵۴۲، والسنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۲)

☆ یہ ظلم ہے۔

(۴) هَذَا تَلَجِثَةٌ

(سنن أبی داؤد، برقم: ۳۵۴۲)

☆ یہ بعض کے لئے خاص کرنا ہے۔

(۵) فَارُدُّهُ

(صحیح مسلم، برقم: ۱۰، ۱۲/۱۶۲۳، و سنن أبی داؤد، برقم: ۳۵۴۳،  
و جامع الترمذی، برقم: ۱۳۶۷، و سنن النسائی، برقم: ۳۷۰۷، ۳۷۰۵ -  
۳۷۰۷، و السنن الکبریٰ للنسائی، برقم: ۱/۲۴۹۹، ۴/۲۵۰۲ -  
۴/۲۵۰۳، و سنن ابن ماجه، برقم: ۲۳۷۶، و شرح معانی الآثار،  
برقم: ۵۸۳۳، و السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۸، ۱۱۹۹۳، و سنن الدار  
قطنی، برقم: ۲۹۴۵، و الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان، برقم: ۵۰۷۵)

☆ پھر اس کو واپس لے لو۔

(۶) فَارْجِعْهُ

(صحیح البخاری، برقم: ۲۵۸۶، و صحیح مسلم، برقم: ۱۶۲۳/۹، و سنن  
النسائی، برقم: ۳۷۰۳ - ۳۷۰۴، و السنن الکبریٰ للنسائی برقم: ۲/۶۵۰۰،  
۳/۶۵۰۱، و الموطا لمحمد بن الحسن، کتاب البیوع فی التجارات و السلم، باب  
النحل، و شرح معانی الآثار، برقم: ۵۸۳۴، و السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم:  
۱۱۹۹۲، و شرح السنۃ، برقم: ۲۱۹۵، و الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان،  
برقم: ۵۰۷۸)

☆ پھر اس سے رجوع کر لو۔

(۷) فَارْتَجِعْهُ

(الموطا للامام مالک بن انس، برقم: ۲۱۴/۳۳/۳۲، و المسند لأحمد ۴/۲۷۱)

☆ پھر رجوع کر لو۔

(۸) أَلَّا سَوِّتَ بَيْنَهُمْ

(سنن النسائی، برقم: ۳۷۱۵، و السنن الکبریٰ للنسائی، برقم: ۱۴/۶۵۱۲،

و شرح معانی الآثار، برقم: ۵۸۴۰)

☆ ان کے مابین مساوات کیوں نہ کی۔

(۹) سَوِّ بَيْنَهُمْ

(سنن النسائی، برقم: ۳۷۱۶، و السنن الکبریٰ للنسائی، برقم: ۱۵/۶۵۱۲،

و الإحسان بترتیب ابن حبان، برقم: ۵۰۷۶، ۵۰۷۷)

☆ ان کے مابین مساوات کرو۔

(۱۰) اَعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ، اَعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ

(سنن أبی داؤد، برقم: ۳۵۴۴، و السنن النسائی، برقم: ۳۷۱۶، و السنن الکبریٰ

للسنن، برقم: ۱۶/۶۵۱۴، و السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۱۹۹۹)

☆ اپنی اولاد کے مابین انصاف کرو، اپنی اولاد کے مابین انصاف کرو۔

(۱۱) اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي

الْبَيْرِ وَاللُّطْفِ

(السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۳، و الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان برقم:

۵۰۸۲)

☆ اپنی اولاد کے مابین عطیہ میں انصاف کرو جیسا کہ ان کا تمہارے درمیان

نیکی و مہربانی میں برابری کرنا تمہیں پسند ہے۔

(۱۲) اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

(صحیح مسلم، برقم: ۱۶۲۳/۱۳)

☆ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔

(۱۳) فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِ لُوَفَىٰ بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

(صحیح البخاری، برقم: ۲۵۸۷، والسنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۹۹۴،

وشرح السنۃ للبخاری، برقم: ۲۱۹۵)

☆ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین انصاف کرو۔

(۱۴) اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

(صحیح البخاری، رواہ تعلیقاً فی باب الهبة للولد الخ)

☆ عطیہ میں اولاد کے مابین عدل کرو۔

(۱۵) قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

(صحیح مسلم، برقم: ۱۶۲۳/۱۸، والسنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۴)

☆ اپنی تمام اولاد کو برابر دو۔

(۱۶) أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟

(سنن ابی داؤد، برقم: ۳۵۴۲، والسنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۱)

☆ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ تیرے ساتھ حسن سلوک اور تجھ پر مہربان

ہونے میں برابر ہوں؟

(۱۷) أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ بَلَىٰ: قَالَ: فَلَا إِذَا

(سنن ابن ماجہ، برقم: ۲۳۷۵)

☆ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ وہ (تیرے ساتھ) اچھا سلوک کرنے میں برابر

ہوں.....؟ عرض کی: کیوں نہیں فرمایا: پھر ایسا مت کرو۔

(۱۸) أَلَيْسَ تَرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مَا تَرِيدُ مِنْ هَذَا، قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ

(السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۴)

☆ کیا تم اُن سے حسن سلوک نہیں چاہتے جو اس سے چاہتے ہو، عرض کی:

کیوں نہیں، فرمایا: پس میں گواہی نہیں دیتا۔

(۱۹) سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَكَ فِي

الْبِرِّ

(شرح معانی الآثار، برقم: ۵۸۳۶، عمدة القاری، برقم: ۲۵۸۷، ۴۰۷/۹)

☆ اپنی اولاد کے مابین داد و دہش میں برابری کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے

ساتھ حسن سلوک میں برابری کریں۔

(۲۰) سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ

النِّسَاءَ

(السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۰، والتمہید ۳/۴۱۳، وفتح الباری شرح

صحیح البخاری، ۲۶۸/۵)

☆ اپنی اولاد کے مابین عطیہ دینے میں برابری کرو، میں اگر ترجیح دیتا تو عورتوں

کو ترجیح دیتا۔

(۲۱) إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ

الْحَقِّ أَنْ يَبْرُوكَ



(صحیح البخاری، برقم: ۲۶۵۰، والسنن النسائی، برقم: ۳۷۱۳، والسنن

الکبریٰ للنسائی، برقم: ۱۲/۲۵۱۰، والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان، برقم:

(۵۰۸۳، ۵۰۸۱، ۵۰۸۰)

☆ تو مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔

(۲۷) فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

(صحیح مسلم، برقم: ۴، ۱۵-۱۶/۱۶۲۳، والسنن النسائی برقم: ۳۷۱۱-

۳۷۱۲، والسنن الکبریٰ للنسائی، برقم: ۱۰/۶۵۰۸، ۱۱/۶۵۰۹، والسنن

الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۱۹۹۵، ۱۱۹۹۷، والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان

، برقم: ۵۰۸۵)

☆ تو میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔

(۲۸) لَيْسَ مِثْلِي يَشْهَدُ هَذَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ

أَوْلَادِكُمْ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ

(السنن الدارقطنی، برقم: ۲۹۴۴)

☆ میری مثل یہ گواہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے

مابین انصاف کرو جیسا کہ وہ دوست رکھتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں انصاف کرو۔

(۲۹) وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ

(صحیح مسلم، برقم: ۱۹/۱۶۲۴، والسنن أبی داؤد، برقم: ۳۵۴۵، وشرح

معانی الآثار، برقم: ۵۸۴۱، والإحسان بترتیب ابن حبان، برقم: ۵۰۷۹، ۵۰۸۲)

☆ میں حق کے سوا کسی اور چیز پر گواہی نہیں دیتا

(السنن أبی داؤد، برقم: ۳۵۴۲، والسنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۲)

☆ بے شک ان کا تجھ پر حق ہے کہ تو ان میں انصاف کرے جیسا کہ تیرا ان پر

حق ہے کہ وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

(۲۲) إِنَّ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ

يُرَوْكَ

(السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۱۹۵۶)

☆ بے شک تجھ پر حق ہے کہ تو اپنی اولاد کے مابین عدل کرے جیسا کہ ان پر حق

ہے کہ وہ تیرے ساتھ اچھا بنائیں کریں۔

(۲۳) فَلَا تُشْهَدُنِي إِذَا

(صحیح مسلم، برقم: ۱۴/۱۶۲۳، والسنن النسائی، برقم: ۳۷۱۱-۳۷۱۲)

☆ تو مجھے گواہ مت بناؤ۔

(۲۴) فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ

(صحیح مسلم، برقم: ۱۸/۱۶۲۳)

☆ تو میں (اس پر) گواہی نہیں دوں گا۔

(۲۵) أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

(السنن النسائی، برقم: ۳۷۱۴)

☆ کیا میں ظلم پر گواہی دوں۔

(۲۶) فَلَا تُشْهَدُنِي عَلَى جَوْرٍ

(۳۰) لَا تُشْهِدُنِي إِلَّا عَلَى عَدْلٍ

(والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، برقم: ۵۰۸۵)

☆ مجھے انصاف کے سوا کسی اور چیز پر گواہ نہ بنا۔

(۳۱) فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي

(السنن أبي داود، برقم: ۳۵۴۲، وشرح معاني الآثار، برقم: ۵۸۳۵، والإحسان

بترتيب صحيح ابن حبان، برقم: ۵۰۸۴)

☆ تو اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لو۔

(۳۲) أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءٌ؟ قَالَ نَعَمْ،

قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي

(السنن أبي داود، برقم: ۳۵۴۶)

☆ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ سب تیرے ساتھ اچھائی کرنے میں برابر ہوں؟

عرض کی: کیوں نہیں، فرمایا: تو اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ کر لو۔

(۳۳) أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ كُلِّهِمْ سَوَاءٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ

فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي

(شرح معاني الآثار، برقم: ۵۸۳۵، والسنن الكبرى للبيهقي، برقم: ۱۲۰۰۱)

☆ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تیری اولاد تیرے ساتھ نیکی کرنے اور تجھ پر

مہربان ہونے میں برابر ہو؟ عرض کی: جی ہاں فرمایا، تو اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ

بنا لو۔

(۳۴) فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي، أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ

سَوَاءٌ، قَالَ: بَلَى، قَالَ فَلَا إِذَا

(السنن الدارقطني، برقم: ۲۹۴۲)

☆ پس اس پر میرے سوا اور کو گواہ کر لے۔

حافظ ابن عبد البر متوفی ۴۲۳ھ نے حدیث نعمان کے چند طرق میں وارد

کچھ الفاظ (جیسے ”فَارْتَجِعْهُ“، ”فَارْجِعْهُ“، ”فَارْدُدْهُ“: ”قَالَ: لَا، فَأَبَى أَنْ

يَشْهَدَ“، ”فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ“ ”هَذِهِ تَلْجِئُهُ“، ”هَذَا جَوْرٌ“

، ”فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي“ اور ان کے علاوہ دیگر الفاظ ذکر کرنے کے بعد لکھا:۔

یہ تمام الفاظ جواز عطیہ پر دلالت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اسے اس

لئے ناپسند فرمایا کہ آپ کو (والد کے اس فعل سے) اس کے بیٹوں پر حقوق (نافرمانی)

کے داخل ہونے کا خوف تھا۔ اور ان الفاظ میں اس پر دلالت نہیں کہ آپ ﷺ نے

عطیہ واپس لینے کا حکم فرمایا (الإستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء

لأقطار، المجلد (۷)، کتاب الأفضیة، باب مالا يجوز من النحل، ص ۲۶)

عدل کا حکم:

فقیہ ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی متوفی ۳۷۳ھ لکھتے ہیں:۔

وعلى الأب أن يعدل بين أولاده في الهبة

(فتاویٰ النوازل، کتاب الهبة، قبل فصل: فی الصدقة، ص ۲۴۸)

یعنی، باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مابین ہبہ میں انصاف کرے۔  
اور علامہ شمس الدین محمد بن محمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ لکھتے ہیں:-

فالمذهب أنه ينبغي للوالد أن يسوّى بين الأولاد في العطية  
(المبسوط (شرح الكافي)، المجلد (۶)، الجزء (۱۲)، كتاب الهبة، ص ۵۰)  
یعنی، مذہب (حنفی) یہ ہے کہ والد کو چاہیے کہ وہ اولاد کے مابین عطیہ میں  
مساوات کرے۔

اور علامہ ناصر الدین ابوالقاسم محمد بن یوسف سمرقندی حنفی متوفی ۵۵۶ھ لکھتے  
ہیں:-

على الأب العدل بين الأولاد  
(المستقط في الفتاوى الحنفية، كتاب الهبة والصدقة، مطلب: على الأب الخ،  
ص: ۳۱۰)

علامہ سراج الدین علی بن عثمان الاوشی الحنفی متوفی ۵۶۹ھ اور ان کے  
حوالے سے فقیہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد آفندی متوفی ۱۰۷۸ھ  
لکھتے ہیں:-

وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطية  
(الفتاوى السراجية، كتاب الهبة، باب أحكام الهدايا، ص ۹۶)، (مجمع الأنهر  
شرح ملتقى الأبحر، المجلد (۳)، كتاب الهبة، ص ۳۵۸)  
یعنی، اپنی اولاد کے مابین عطایا (وہبہ) میں انصاف کرنا چاہیے۔

لہذا والد یا والدہ جب بھی اپنی اولاد کو ہبہ کرے تو اسے چاہیے کہ بلا وجہ شرعی  
ہبہ میں اپنی کسی اولاد کو دوسری اولاد پر ترجیح نہ دے اور اگر اس نے بلا وجہ شرعی ترجیح دی  
تو یہ فعل حرام نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہوگا چنانچہ علامہ محمد بن یوسف کرمانی متوفی ۷۸۶ھ  
باب الإشهاد فی الهبة میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت  
لکھتے ہیں:-

فيه أنه ينبغي أن يسوّى بين أولاد في الهبة ذكوراً أو إناثاً، فلو  
وهب لبعضهم دون بعض فليس بحرام بل مكروه والهبة صحيحة  
(السنن الكبرى بشرح الكرمانی، المجلد (۵)، كتاب الهبة، باب الإشهاد فی الهبة،  
برقم ۲۴۱۶، ص ۱۳۴)

یعنی، اس حدیث میں ہے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں مرد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو  
ہبہ کرنے میں برابری کرے، پس اگر ان میں کچھ کو دیا دوسروں کو نہ دیا تو یہ حرام نہیں  
بلکہ مکروہ ہے اور ہبہ ہو جائے گا۔  
مذہبِ اربعہ:

بغیر کسی سبب کے بعض اولاد کو دینے میں ترجیح دینے کے بارے میں علماء کا  
اختلاف ہے چنانچہ علامہ ابوالحسن علی بن حلف بن عبدالملک المعروف بابن بطلان  
لکھتے ہیں:-

اختلف العلماء في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض

(شرح صحيح البخارى لابن بطلال، المجلد (٧) كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ص ٩٨)

یعنی، علماء کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو اپنی اولاد میں سے بعض کو دے اور دوسروں کو نہ دے۔

مذہب اربعہ میں امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے ہاں اولاد میں سے عطیہ میں بعض کو بعض پر ترجیح دینا مکروہ ہے نہ کہ حرام اور امام احمد کے نزدیک حرام ہے۔ چنانچہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:-

فمذهب الشافعی و مالک و أبی حنیفة أنه مکروه لیس بحرام و الهبة صحیحة

(شرح صحيح مسلم للنووی، المجلد (٦)، الجزء (١١) كتاب الهبة، باب کراهية تفضيل بعض الأولاد فی الهبة، رقم الحديث: ١٦٢٣، ص ٥٦)

یعنی، پس امام شافعی، امام مالک اور امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے نہ کہ حرام اور بہت صحیح ہے۔

اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ ”شرح موطا“ میں حدیث نعمان کے تحت لکھتے ہیں:-

قلت: فی شرح السنة: ذهب الشافعی وأبو حنیفة إلى أن تفضيل بعض الأولاد علی بعض فی النحل مکروه، ولو فعل نفذ (المسوّی شرح الموطا، كتاب الهبة، باب: یکره أن یؤثر بعض أولاده بالنحل دون

الآخرین، ص ٦٦)

یعنی، میں حدیث کی شرح میں کہتا ہوں کہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ اس طرف گئے کہ بعض اولاد کو دوسری اولاد پر عطیہ میں ترجیح دینا مکروہ ہے اور اگر اس نے ایسا کیا تو عطیہ نافذ ہو جائے گا۔

امام نووی لکھتے ہیں:-

وقال طاؤس، وعروة، ومجاهد، والثوری، وأحمد، و اسحاق، و داؤد حرام

(شرح صحيح مسلم للنووی، المجلد (٦)، الجزء (١١) كتاب الهبة، باب کراهية تفضيل بعض الأولاد فی الهبة، رقم الحديث: ١٦٢٣، ص ٥٦)

یعنی، طاؤس، عروہ، مجاہد، ثوری، احمد بن حنبل، اسحاق اور داؤد ظاہری نے کہا کہ حرام ہے۔

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:-

احتج به من أوجب التسوية فی عطية الأولاد وهو قول طاؤس، والثوری وأحمد وإسحاق، كما ذكرناه، وقال به بعض المالكية، ثم المشهور عن هؤلاء: أنها باطلة، وعن أحمد: يصح ويجب عليه أن يرجع، وعنه: يجوز التفاضل إن كان له سبب، كاحتياج الولد لزماته أو دينه أو نحو ذلك یعنی، اس حدیث سے دلیل پکڑی اس نے جس نے اولاد کے مابین عطیہ

میں مساوات کو واجب قرار دیا، یہی قول ہے طاؤس، ثوری، احمد کا اور بعض مالکیہ نے بھی یہی کہا۔ پھر ان سب کے ہاں مشہور یہی ہے کہ اگر بعض سے بعض کو زیادہ دے گا تو ہبہ باطل ہے، امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ ہبہ صحیح ہے اور ہبہ کرنے والے کے لئے اس ہبہ سے رجوع کرنا واجب ہے، تیسری روایت ہے کہ اگر اولاد میں سے کسی کو زیادہ احتیاج ہو مثلاً وہ معذور ہو یا اس پر قرض ہو تو زیادہ دینا جائز ہے۔

وقال أبو يوسف :

تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار ، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة : فإن فضل بعضاً صح وكره ، وحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری ، المجلد (۹) کتاب (۵۱) الہیة ، باب الإشهاد فی الہیة ، رقم الحدیث ۲۵۸۷ ، ص : ۴۰۶)

یعنی ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں : اگر کچھ اولاد کو زیادہ دے کر دوسروں کو ضرر پہنچانے کا ارادہ ہو تو مساوات واجب ہے اور جمہور کا موقف ہے کہ مساوات مستحب ہے اور بعض کو بعض سے زیادہ دینا مکروہ (تنتزیہی) ہے اور حدیث میں مساوات کا امر استحباب پر اور زیادہ دینے سے ممانعت (کراہت) تنزیہ پر محمول ہے۔

اسی طرح حافظ احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی ”فتح الباری شرح صحیح البخاری“ (المجلد (۵) ، کتاب الہیة وفضلها والتحریض علیها ، باب

الإشهاد فی الہیة ، الحدیث : ۲۵۸۷ ، ص ۲۶۸) میں ذکر کیا :-

اور حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد ابن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں اور امام مالک ، لیث ثوری ، شافعی ، ابو حنیفہ اور ان سب کے اصحاب نے فرمایا :-

اس میں کوئی حرج نہیں عطیہ و ہبہ میں کچھ اولاد کو دوسروں پر ترجیح دے اور ایک کو اپنی تمام اولاد پر عطیہ میں ترجیح دے ، وہ اس کے باوجود اسے مکروہ جانتے ہیں اور عطایا میں سب بیٹوں کو برابر دینا ان سب کے نزدیک پسندیدہ ہے

(الإستذکار الجامع لمذاهب فقہاء الأمصار و علماء الأقطار ، المجلد (۷) ، کتاب الأقضية ، باب (۳۳) ، مالا یحوز من النحل ، ص : ۲۲۷)

اور دوسری کتاب میں لکھتے ہیں علماء کا اس پر اجماع ہے عطیہ میں بیٹوں کے مابین مساوات مستحب ہے سوائے اہل ظاہر کے جنہوں نے وجوب کا قول کیا

(التمہید لما فی الموطا من المعانی والمسانید ، المجلد (۳) ، باب المیم ، محمد بن شہاب الزہری ، ص ۲۱۳)

اور اسی کتاب میں لکھتے ہیں امام مالک ، ثوری ، شافعی اور جن فقہاء نے ان کے قول کے مطابق قول کیا سب کا صحیح مذہب یہ ہے کہ عطیہ میں بیٹوں کے مابین ترجیح کو ترک کرنا مستحب ہے اور جب ترجیح واقع ہوئی تو وہ عطیہ نافذ ہو جائے گا ، اور اس کی غایت یہ ہے کہ اس نے اس میں افضل کو ترک کیا جیسا کہ کوئی شخص اپنے محارم کو چھوڑ کر غیر کو ہبہ کرے تو وہ افضل کا تارک ہوگا (جبکہ محارم میں زیادہ محتاج ہوں) باوجود اس کے کہ اس کا ہبہ نافذ ہو جائے گا۔ (التمہید ۴۱۲/۳)

اور امام ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی شافعی متوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:-

قال الإمام في هذا الحديث فوائد منها ، استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البرّ حتى في القبل ، ذكوراً كانوا أو أنثاء الخ (شرح السنة ، المجلد (۴) ، كتاب العطايا والهدايا ، باب الرجوع في الهبة ، لولد الخ ، ص : ۴۲۶)

یعنی ، امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث (جس میں حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو ہبہ سے رجوع کا حکم دیا گیا) میں کئی فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی اولاد کے مابین عطیہ و ہبہ اور نیکی کی جملہ انواع میں حتیٰ کہ بوسہ دینے میں مساوات مستحب ہے۔

## حرام کہنے والوں کی دلیل:

امام نووی لکھتے ہیں:-

واحتجوا برواية "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" وبغيرها من ألفاظ الحديث

(شرح صحيح مسلم للنووي ، المجلد (۶) الجزء (۱۱) ، كتاب الهبة ، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، رقم الحديث : ۱۶۲۳ ، ص : ۵۶)

یعنی ، حرام کہنے والوں نے ”میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا“ والی روایت اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ حدیث سے دلیل پکڑی ہے۔

## استحباب کی دلیل:

اور ہبہ کے جواز مع الکرہیتہ کے قائلین کی دلیل حضور ﷺ کا فرمان:-  
”اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنالو“ ہے۔

چنانچہ علامہ نووی لکھتے ہیں:-

واحتج الشافعي وموافقوه بقوله ﷺ ”فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي“ ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام

یعنی ، اور امام شافعی اور ان کے ساتھ موافقت کرنے والوں کی دلیل نبی ﷺ کا فرمان:- ”اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنالو“ ہے اور اگر یہ حرام یا باطل ہوتا تو حضور ﷺ اس سے یہ کلام نہ فرماتے۔

فان قيل: قاله تهديداً - قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا ويحتمل عند إطلاقه صيغة إفعال على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة

(شرح صحيح مسلم للنووي ، المجلد (۶) ، الجزء (۱۱) ، كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، رقم الحديث : ۱۶۲۳ ، ص : ۵۶ - ۵۷)

یعنی ، پس اگر کہا جائے کہ نبی ﷺ نے یہ تہدیداً (خوف دلانے کے لئے) فرمایا ، ہم کہیں گے کلام شارع میں اصل اس کا غیر ہے اور افعال (یعنی امر) کا صیغہ اپنے اطلاق کے وقت وجوب یا نڈب کا احتمال رکھتا ہے پھر اگر وہ معذور ہو تو اباحت پر



محمول ہوگا۔

## اور مساوات استحباب پر محمول ہے:

علماء کرام نے حدیثِ نعمان کا جواب دیتے ہوئے اس میں مساوات کے امر کو مذہب (استحباب) پر محمول کیا ہے۔

1۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو ہیہ کیا گیا مال ان کے والد کا کل مال تھا، تو اس لئے (نبی ﷺ نے ان کے والد کو اس ہیہ سے) منع کیا۔

(عمدة القاری ۹/۴۰۴، وفتح الباری: ۲۶۸/۵)

سید سابق نے ”فقہ السنۃ“ میں لکھا ہے کہ:

اسے ابن عبد البر نے حکایت کیا ہے (ص ۹۶۳) حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے ”فتح الباری شرح بخاری“ میں لکھا ہے کہ حکاہ ابن عبد البر عن مالک، علامہ عینی اور عسقلانی لکھتے ہیں: اس جواب کا رد کیا گیا کہ حدیثِ نعمان کے کثیر طرق میں بعض مال کے ہیہ کی تصریح ہے، اور قرطبی نے فرمایا: تاویلات میں سے سب سے بعید تاویل یہ ہے کہ کہا جائے حدیثِ نعمان میں (منع) اس کو شامل ہے جو اپنا کل مال کسی ایک اولاد کو ہیہ کر دے جیسا کہ علامہ سخون اسی طرف گئے۔ جس نے یہ تاویل کی اس نے گویا کہ نفسِ حدیث میں یہ نہیں سنا کہ مہوب ایک غلام تھا، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو اس وقت ہیہ کیا تھا جب حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان کو کچھ مال ہیہ کرنے کا سوال کیا، فرمایا یہ بات قطعی طور پر

معلوم ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے علاوہ اور بھی مال تھا۔

(عمدة القاری ۹/۴۰۸، وفتح الباری ۵/۲۶۸)

2۔ عطیہ مذکورہ نافذ نہ ہوا تھا، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرے، پھر حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے اس ارادے کو ترک کر دیا، اسے امام طحاوی نے حکایت کیا۔

(عمدة القاری ۹/۴۰۷، وفتح الباری ۵/۲۶۸)

سید سابق نے لکھا کہ اسے امام طبری نے روایت کیا ہے۔

(فقہ السنۃ، الہبۃ، الجواب الثانی، ص: ۹۶۴)

اور بعض کہتے ہیں کہ: حدیثِ نعمان کے اکثر طرق میں وہ ہے جو مذکورہ بالا بات کے مخالف ہے۔

(عمدة القاری ۹/۴۰۸، وفتح الباری ۵/۲۶۸)

علامہ عینی لکھتے ہیں میں کہتا ہوں:

یہ اس کی بات ہے جو مُصَنَّف نہیں، کیونکہ اس قول کا قائل اپنے قول سے امام طحاوی کی بات کو کمزور دکھانا چاہتا ہے۔ باوجود اس کے امام طحاوی نے یہ بات حدیثِ شعیب کی بناء پر کی جسے امام بخاری کے استاد نے ان سے روایت کیا اور وہ شعیب بن ابی ضمیرہ ہیں، پس انہوں نے اسے روایت کیا، فرمایا: حدیثِ بیان کی ہم

سے فہم نہ، انہوں نے فرمایا: حدیث بیان کی ہم سے ابو الیمان نے، انہوں نے فرمایا: حدیث بیان کی ہم سے شعیب نے، انہوں نے روایت کیا (امام ابن شہاب) زہری سے، انہوں نے فرمایا: حدیث بیان کی مجھ سے حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن العثمان نے، ان دونوں نے سنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے وہ فرماتے ہیں: مجھے میرے والد نے ایک غلام دیا پھر چلے یہاں تک کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں لے گئے، عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے اگر آپ ﷺ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اسے جائز قرار دے دیتا ہوں، پھر پوری حدیث بیان کی، یہ حدیث با آواز بلند پکار رہی ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو غلام دیا تھا مگر اس ہبہ کو نافذ نہ کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے حضور ﷺ سے اس معاملے میں مشورہ کیا، تو آپ ﷺ نے اجازت نہ دی تو انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔

(عمدة القاری ۹/۴۰۸)

3۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بڑے (یعنی بالغ) تھے اور انہوں نے موہوب پر قبضہ نہ کیا تھا تو باپ کے لئے اس ہبہ سے رجوع کرنا جائز تھا۔ اسے بھی امام طحاوی نے ذکر کیا۔ اور بعض نے کہا: یہ بھی اکثر طرق حدیث میں جو آیا ہے اس کے خلاف ہے، خصوصاً نبی ﷺ کا فرمان: ”اس سے رجوع کر لے“ یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے موہوب پر قبضہ ہو چکا تھا۔

(عمدة القاری، وفتح الباری ۵/۲۶۸)

(علامہ عینی لکھتے ہیں) میں کہتا ہوں:

یہ بھی امام طحاوی کے کلام میں بلاوجہ بغیر انصاف کے طعن ہے۔

امام طحاوی نے یہ بھی (اپنی طرف سے) نہیں کہا مگر اس قول کو انہوں نے امام مسلم کے استاد یونس بن عبد الاعلیٰ سے لیا ہے جسے انہوں نے امام شافعی کے شیخ سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے محمد بن مسلم (بن شہاب) زہری سے، انہوں نے محمد بن نعمان اور حمید بن عبد الرحمن سے روایت کیا، ان دونوں نے خبر دی کہ: انہوں نے اسے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے فرمایا: مجھے میرے والد نے ایک غلام دیا، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں کہ اس ہبہ پر آپ ﷺ کو گواہ کر لوں..... الحدیث، یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت نعمان ﷺ بڑے تھے، اگر چھوٹے ہوتے تو ان کی والدہ انہیں کیسے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں جانے کا کہتیں؟ اور اس قائل کا قول (کہ حضور ﷺ کا فرمان) ”اس سے رجوع کر لو“ تقدّم قبضہ پر دلالت کرتا ہے (تو علامہ عینی فرماتے ہیں)، یہ حقیقت قبضہ پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ یہ قول اس بات کا احتمال رکھتا ہے آپ ﷺ نے حضرت بشیر ﷺ سے فرمایا اس سے رجوع کر لے۔

(عمدة القاری ۹/۴۰۷)

جو تو نے نعمان کو اس کے دوسرے بھائیوں کو چھوڑ کر عطیہ دینے کی بات کی ہے۔

4۔ امام مسلم کی ابن سیرین سے روایت میں جو واقع ہے وہ دلالت کرتا ہے

کہ حدیث نعمان میں محفوظ ”قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ“ ہے نہ کہ ”سُوُوا“ الخ

(فتح الباری ۲۶۸/۸)

5- اولاد کے عطیہ میں مساوات کو اولاد کی طرف سے ماں باپ سے حُسن سلوک کے ساتھ تشبیہ دینا ایسا قرینہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حدیث شریف میں حکم استجابی ہے..... الخ (فتح الباری ۲۶۸/۵)

6- نبی ﷺ کا فرمان ”اس سے رجوع کرلو“ صحت ہبہ کی دلیل ہے اگر وہ ہبہ درست نہ ہوتا تو رجوع بھی درست نہ ہوتا اور انہیں رجوع کا حکم دیا گیا والد کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ہبہ سے رجوع کرے اگرچہ افضل اس کا خلاف ہے (یعنی افضل رجوع نہ کرنا ہے) لیکن استجاب مساوات کو اس پر ترجیح دی گئی اسی وجہ سے انہیں اس کا حکم فرمایا اور اس سے استدلال میں نظر ہے اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی ﷺ کے فرمان ”اس سے رجوع کرلو“ کا معنی ہے کہ ہبہ مذکورہ کو جاری نہ کرو، اور اس سے تقدم صحت ہبہ لازم نہیں آتا۔ (فتح الباری ۲۶۸/۵)

اقول:-

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ والد کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ہبہ سے رجوع کرے یہ انہوں نے اپنے مذہب (یعنی شافعی مذہب) کے مطابق فرمایا کیونکہ ہبہ سے رجوع کے بارے میں فقہائے کرام میں اختلاف ہے چنانچہ امام نووی شافعی متونی ۶۷۶ھ ہیں حدیث ”اس کی مثال جو اپنے صدقے سے رجوع

کرے ایسی ہے جیسے کُتّا اُلٹی کرے پھر اس میں لوٹے اور اُسے کھائے“ کے تحت لکھتے ہیں: یہ فرمان اس میں ظاہر ہے کہ قبضہ کے بعد ہبہ و صدقہ سے رجوع کرنا حرام ہے البتہ اولاد یا اولاد کی اولاد کو ہبہ کرنے کے بعد اس سے رجوع کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث نعمان سے ثابت ہے۔ بھائیوں، چچاؤں اور دیگر ذوی الارحام کو ہبہ کرنے کے بعد اس سے رجوع نہیں کر سکتا یہ امام شافعی کا مذہب ہے یہی امام مالک اور امام اوزاعی نے فرمایا، امام ابوحنیفہ اور دیگر فقہاء نے فرمایا والد اور محرم کے سوا ہبہ کرنے والا (اپنے) ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الہبات، باب تحریم الرجوع فی الصدقة الخ، برقم: ۱۶۲۲/۵)

7- نبی ﷺ ”الْأَسْوَيْتَ بَيْنَهُمْ“ یعنی تو نے اس میں مساوات کیوں نہ کی؟ اس بات پر دلالت ہے کہ امر سے مراد استجاب ہے اور نہی سے مراد تنزیہ ہے الخ

(فتح الباری، ۲۶۸/۵)

8- علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں: امام نسائی وغیرہ کی روایت میں (حضور ﷺ کا فرمان) اَشْهَدُ (گواہ کرلو) اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ مساوات کا حکم وجوب پر دال ہے کیونکہ امر تو بیخ جس پر حدیث میں کثیر الفاظ دلالت کرتے ہیں (انہیں) تا مل کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ (عمدة القاری، ۴۰۸/۹)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ حضور ﷺ کا فرمان ”أَشْهَدُ عَلَى هَذَا“

غَيْرِي“ اس پر گواہ بنانے کی اجازت ہے اور آپ ﷺ خود گواہ بننے سے اس لئے  
رُکے کہ آپ ﷺ امام تھے گویا کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں گواہی نہ دوں گا کیونکہ امام کی  
شان نہیں کہ وہ گواہی دے بلکہ اس کی شان سے یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اسے امام  
طحاوی نے حکایت کیا اور ابن القصار نے اسے پسند کیا اور پھر حافظ ابن حجر نے اس  
جواب پر تعجب کو بیان کیا۔ (فتح الباری ۲۶۸/۵)

اور حافظ ابن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں:-

حضور ﷺ کا فرمان ”فأشهد على هذا غيري“ یہ صحتِ ہبہ پر دلالت کرتا  
ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لینے کا حکم نہ فرمایا بلکہ اُسے کسی دوسرے  
کو اس پر گواہ بنا کر مضبوط کرنے کا حکم فرمایا۔ الخ

(الإستذكار، المجلد (۷)، كتاب الأفضية، باب ما لا يجوز من النحل، ص ۲۲۶  
علامہ ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

نبی ﷺ نے فرمایا: ”فأشهد على هذا غيري“ اور اگر باطل ہوتا تو اس پر  
غیر کو گواہ بنانا جائز نہ ہوتا۔

(شرح السنة، المجلد (۴)، كتاب العطايا والهدايا، باب الرجوع في الهبة للولد  
الخ ص ۴۲۶)

9- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام اولاد میں سے ام المؤمنین سیدہ  
عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کیا دوسری اولاد کو ہبہ نہ کیا اور اس اثر کو امام مالک بن انس

متوفی ۱۷۹ھ نے ”الموطأ“ (كتاب (۲۶) الأفضية، باب (۳۳) ما لا  
يجوز من النحل، ص ۴۶۲، أثر: ۱۸۰۷) میں اور امام ابو جعفر محمد بن احمد  
طحاوی نے اپنی کتاب ”شرح معانی الآثار“ (كتاب (۱۸) الهبة والصدقة،  
باب الرجل ينحل بعض بنیه دون بعض، ص ۸۸، الحديث: ۵۸۴۴۔  
۵۸۴۵) میں روایت کیا ہے اور حافظ ابن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ نے ”الإستذكار“  
(المجلد (۷)، كتاب الأفضية، باب ما لا يجوز من النحل، ص ۲۲۴،  
الحديث: ۱۴۴۰) میں اور امام شمس الدین محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ نے  
”المبسوط“ (شرح الكافي)، المجلد (۶)، الجزء (۱۲)، كتاب الهبة،  
ص ۴۴) میں نقل کیا ہے۔

اور امام ابو بکر احمد بن حسین بھقی متوفی ۴۵۸ھ لکھتے ہیں کہ:-

امام شافعی فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (اپنی لختِ جگر)  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ میں (دوسری اولاد پر) ترجیح دی۔ پھر امام بھقی نے امام  
شافعی کی سند سے حضرت عائشہ کی حدیث کو بیان کیا۔

(السنن الكبرى للبيهقي، المجلد (۶)، كتاب الهبات، باب ما يستدل به على أمره  
بالتسوية بينهم في العطية الاختيار دون الإيجاب، ص ۲۹۵)

اور اس اثر کے تحت امام ابو جعفر طحاوی لکھتے ہیں:-

فهذا أبو بكر رضي الله عنه، قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر

ولده، ورأى ذلك جائزاً، ورأته هي كذلك، ولم ينكر عليها أحد من أصحاب النبي ﷺ، ورضى الله عنهم

یعنی، پس یہ ابوبکر رضی اللہ عنہما ہیں جنہوں نے اپنی تمام اولاد کو چھوڑ کر (اپنی تخت جگر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا) کو عطیہ دیا، اور اسے جائز سمجھا، ام المؤمنین نے بھی اسے اسی طرح جائز سمجھا، اور اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض نہ کیا۔

اور اسی طرح امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ روایت کرتے ہیں:-

حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن فضل بنى أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده

(شرح معانی الآثار، ص ۸۸، الحديث: ۵۸۴۶)

یعنی، حدیث کا بیان کی ہم سے یونس نے، انہوں نے فرمایا: حدیث بیان کی ہم سے سفیان نے، وہ عمرو سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: خبر دی ہمیں صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے (اپنی بیوی) ام کلثوم کے بیٹوں کو عطیہ دیا جو انہوں نے اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا (حضرت عبد الرحمن کی ام کلثوم سے اولاد تھی جسے انہوں نے عطیہ دیا اور ان کی جو اولاد ام کلثوم سے نہ تھی اُسے عطیہ نہ دیا)

اور اس کے تحت لکھتے ہیں:-

وهذا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قد فضل بعض أولاده أيضاً فيما أعطاهم، على بعض، ولم ينكر على ذلك عليه منكر

(شرح معانی الآثار، ۴/۸۸)

یعنی، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں جنہوں نے اپنی اولاد کو جو دیا اس میں کچھ اولاد کو دوسری اولاد پر ترجیح دی، اور اس پر کسی انکار کرنے والے نے کوئی انکار نہ کیا۔ اور علامہ ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ لکھتے ہیں:-

قال الشافعي: وفضل عمر عاصماً بشئ أعطاه إياه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم

یعنی، امام شافعی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اپنے بیٹے عاصم کو کچھ دینے میں (دوسروں پر) ترجیح دی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم سے اپنی اولاد کو (عطیہ دینے میں دوسری اولاد پر) ترجیح دی۔ اور لکھتے ہیں کہ:-

خبر دي همين ابو زكريا بن ابي اسحاق اور ابوبكر بن حسن، دونوں نے فرمایا: حدیث بیان کی ہم سے ابو العباس الاصم نے وہ کہتے ہیں: خبر دی ہمیں وہب نے، وہ کہتے ہیں: خبر دی مجھے ابن لہیعہ نے، انہوں نے روایت کیا بکیر بن الاشج سے، انہوں

نے روایت کیا نافع (تابعی شاگرد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما) سے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وادیوں کے بلند حصے یا سبز چارے اپنی اولاد میں سے کچھ کو دیئے دوسروں کو نہ دیئے

(سنن الکبریٰ للبیہقی، المجلد (۲)، کتاب الہیات، باب (۱۰) ما يستدل به على أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار ومن الإيجاب، ص ۲۹۶، الحديث: ۱۲۰۰۵)

اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں بکیر نے حدیث بیان کی مجھ سے قاسم بن عبدالرحمن انصاری نے کہ وہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما چلے یہاں تک کہ ایک انصاری کے پاس آئے اور اس کی زبانی کہا اور اس سے اُسے خرید لیا تو وہ شخص آپ کے پاس آکر کہنے لگا کہ آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ زمین میرے بیٹے وارث لئے ہے، وہ مسکین تھے جنہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام اولاد کو چھوڑ کر خاص طور پر عطیہ دیا۔ امام ابو جعفر لکھتے ہیں:-

فیکف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء، على خلاف قول النبي ﷺ لكن قول النبي ﷺ عندنا، فيما ذكرنا ذلك، إنما كان على الإستحباب، كإستحبابه التسوية بين أهله في العطية (شرح معانی الآثار، ۸۹/۴)

یعنی، اور کسی کے لئے کیسے جائز ہوگا کہ وہ ان (جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان) کے فعل کو نبی ﷺ کے قول کے خلاف پر محمول کرے، لیکن نبی ﷺ کا قول ہمارے نزدیک اس میں جس کا ہم نے ذکر کیا صرف استحباب پر ہے جیسا کہ اپنے اہل کو عطیہ دینے میں مساوات کا استحباب۔

اسی لئے علامہ عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں بے شک خلفاء رسول ﷺ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عدم مساوات پر تھے نبی ﷺ کے وصال باکمال کے بعد عدم مساوات پر ہونا اس پر قرینہ ظاہر ہے کہ حدیث شریف میں مساوات کا حکم استحباب پر محمول ہے۔

(عمدة القاری، ۴۰۷/۹-۴۰۸، وفتح الباری، ۲۶۹/۵)

علامہ عینی لکھتے ہیں:-

مگر اثر ابی بکر رضی اللہ عنہ جس کی تخریج امام طحاوی نے کی (فرماتے ہیں) حدیث بیان کی ہم سے یونس نے، انہوں نے فرمایا: حدیث بیان کی ہم سے ابن وہب نے کہ انہیں امام مالک نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے روایت کیا، فرماتی ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں غابہ میں اپنے مال میں سے کئی ہوئی کھجوروں کے بیس (۲۰) وسق دیئے اور ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا: اے میری بیٹی بخدا! میرے بعد لوگوں میں سے کسی کا بھی غنئی مجھے تیرے غنئی سے زیادہ



پسند نہیں اور کسی کا فقر مجھ پر تیرے فقر سے زیادہ گراں نہیں، اور میں نے تجھے کئی ہوئی  
 کھجوروں کے بیس وسق عطیہ دیئے تھے انہیں اگر تو لے لیتی اور اپنے قبضہ میں کر لیتی تو  
 وہ تیرے ہو جاتے، اور آج وہ ترکہ ہے اور اس کے وارث تیرے دو بھائی اور دو بہنیں  
 ہیں وہ اسے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر لیں۔ (عمدة القاری، ۹/۴۰۸)  
 اس اثر کو امام مالک بن انس متوفی ۱۷۹ھ نے اپنے ”موطا“ (اثر:  
 ۱۸۰۷) میں، امام ابو جعفر طحاوی نے بھی ”شرح معانی الآثار“ (برقم:  
 ۵۸۴۴ - ۵۸۴۵) میں روایت کیا، امام شافعی فرماتے ہیں: (بہت) کچھ دینے میں  
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے بیٹے) عاصم کو (دوسری اولاد پر) ترجیح دی اور  
 حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم سے اپنی اولاد کو (بہت) دوسری  
 اولاد پر (ترجیح دی، مگر اثر عمر رضی اللہ عنہ تو اسے امام طحاوی نے بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ  
 اسے امام بیہقی نے امام شافعی سے ذکر کیا اس کی تخریج عبداللہ بن وہب نے اپنی  
 ”مسند“ میں کی، اور فرمایا: مجھے عمرو بن دینار سے خبر پہنچی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف  
 رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے اپنی بیٹی کو چار ہزار درہم عطیہ  
 دیئے اور ان کی اس بیوی کے علاوہ دوسری بیویوں سے بھی اولاد تھی۔ (علامہ عینی لکھتے  
 ہیں) میں کہتا ہوں یہ اثر منقطع ہے۔

(عمدة القاری شرح صحيح البخاری، المجلد (۹)، کتاب (۵)، الہبة، باب  
 (۱۳)، الإشهاد فی الہبة، الحديث: ۲۵۸۷، ص ۴۰۸)

اسی طرح علامہ ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۶ھ نے بھی ”شرح  
 السنّة“ (۴/۳۲۶) میں ذکر کیا ہے۔

10۔ اور یہ قطعی جواب ہے کہ غیر اولاد کو کوئی شخص اپنا مال (ہبتہ) دے اس  
 پر اجماع منعقد ہوا، پس جب اس کے لئے یہ جائز ہوا کہ وہ اپنی تمام اولاد کو اپنے مال  
 سے خارج کر دے (یعنی انہیں نہ دے) اسے ابن عبدالبر نے ذکر کیا، کہا گیا کہ اس  
 میں نظر ہے کیونکہ یہ نص ہونے کے باوجود قیاس ہے، (عمدة القاری، وفتح الباری  
 ۵/۲۶۹) (علامہ عینی لکھتے ہیں) میں کہتا ہوں: یہ (قیاس مع وجود النص) ابتداءً  
 ممنوع ہے، مگر جب نص کی وجہ میں سے کسی وجہ پر عمل کر لیا پھر اس وجہ کا قیاس دوسری  
 وجہ کی طرف کیا گیا، پھر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے نص کی موجودگی میں قیاس پر عمل کیا  
 ہے۔

(عمدة القاری شرح صحيح البخاری، المجلد (۹)، کتاب (۵)، الہبة، باب  
 (۱۳)، الإشهاد فی الہبة، الحديث: ۲۵۸۷، ص ۴۰۸)  
 اور علامہ ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک ابن بطل لکھتے ہیں:-

جب علماء کرام نے اس پر اجماع کیا کہ وہ اپنے مال کا مالک ہے، اور اس کو  
 جائز ہے کہ وہ اپنا مال لوگوں میں سے جسے چاہے دے دے اسی طرح اس کے لئے  
 جائز ہے کہ وہ اپنا مال اپنی اولاد میں سے جسے چاہے دے اور اس کے جواز پر دلیل یہ  
 ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام اولاد میں سے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی

اللہ عنہا کو ہبہ کیا، اور حضرت عمرؓ نے اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹے حضرت عاصمؓ کو ہبہ کیا، اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ام کلثوم کی بیٹی کو (جوان کی بھی بیٹی تھی) ہبہ کیا جبکہ ان کے علاوہ دوسری اولاد کو ہبہ نہ کیا۔ اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں امام ہیں (یعنی پیشوا ہیں) اور حضرت عبدالرحمن (بن عوف)ؓ اور (صحابہ کرام میں) ان کا (بھی بڑا) مقام (ہے) اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے اس پر انکار کیا ہو۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطال، المجلد (۷)، کتاب الہبۃ، الہبۃ الولد الخ، ص: ۱۰۰)

اور امام ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں کہ:-

حضرت ابراہیم نخعی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اولاد کے مابین انصاف کو مستحب

جانتے تھے حتیٰ کہ اولاد کو بوسہ دینے میں بھی۔

(شرح السنۃ، المجلد (۴)، کتاب العطایا والهدایا، باب الرجوع فی الہبۃ للولد الخ، ص: ۴۲۶)

## کیفیت عدل:

اولاد کے مابین عطیہ و ہبہ میں عدل و مساوات کی کیفیت میں دو قول ملتے ہیں۔

۱۔ بیٹے کو بیٹی کا دگنہ دے جیسا کہ ترکہ کی تقسیم میں یہی قاعدہ ہے۔

۲۔ بیٹے اور بیٹی کو یکساں دے۔

## کیفیت عدل میں مذاہب:

چنانچہ علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اور حافظ احمد بن حجر عسقلانی

متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:-

ثم اختلفوا فی صفة التسویۃ، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق و بعض الشافعیۃ و بعض المالکیۃ (العدل) أن یعطى الذکر حظین کالمیراث، وقال غیرهم: لا یفرق بین الذکر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسویۃ یشهد لهم، واستأنسوا بحديث أخرجه سعید بن منصور والبیہقی من طریقہ عن ابن عباس مرفوعاً: ”سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِی الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفْضِلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ“ واللفظ للعینی

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، المجلد (۹)، کتاب (۵۱) الہبۃ وفضلہا والتحریض علیہا، باب (۱۳) الإشهاد فی الہبۃ، (رقم الحدیث: ۲۵۸۷، ص ۴۰۷ (فتح الباری شرح صحیح البخاری، المجلد (۵)، کتاب الہبۃ وفضلہا التحریض علیہا، باب (۱۳) الإشهاد فی الہبۃ، برقم الحدیث: ۲۵۸۷، ص ۲۶۷-۲۶۸)

یعنی، عدل و انصاف کی صفت میں فقہاء کا اختلاف ہے امام محمد بن حسن شیبانی، امام احمد بن حنبل، اسحاق اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے اور دوسرے فقہاء نے یہ فرمایا مذکور مونث کا فرق نہ کیا جائے، حدیث شریف میں جو مساوات کا حکم ہے اس سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ نیز امام سعید

ترجیح دیتا۔

(التمهید لما فی الموطأ من المعانی والمسانید، المجلد (۳)، باب المیم  
، محمد بن شہاب الزہری، ص ۴۱۳)

## احناف کے ہاں کیفیت عدل :

احناف کے ہاں کیفیت عدل میں اختلاف ہے چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی  
لکھتے ہیں ہمارے اصحاب احناف میں اولاد کو عطیہ کے بارے میں اختلاف ہے جس  
میں نبی ﷺ کا حضرت بشرؓ کے لئے فرمان ہے۔

(شرح معانی الآثار، المجلد (۴)، کتاب الہبة والہدیة، باب الرجل ینحل بعض بنیہ  
دون بعض، ص ۸۹)

اور عدل و مساوات کی کیفیت میں اختلاف یہ ہے کہ:-

۱۔ بیٹے اور بیٹی میں ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰی﴾ کے قاعدے پر دینا عدل ہے۔

۲۔ یا جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دینا عدل ہے۔

اور اول امام محمد کی طرف اور ثانی امام ابو یوسف کی طرف منسوب ہے۔

چنانچہ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ لکھتے ہیں:-

فقال أبو یوسف رحمہ اللہ علیہ یسوی بین الأنثی فیہا والذکر، وقال  
محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ: یجعلہا بینہم علی قدر الموارث،  
﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰی﴾

بن منصور، امام بھقی نے حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت کیا ”عطیہ میں اپنی  
اولاد کے مابین مساوات کرو پس اگر میں کسی کو زیادہ دیتا تو عورتوں کو دیتا“۔

علامہ ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:-

قال بعض أصحابنا یكون للذكر مثل حظ الأنثیین والصحيح المشهور أنه  
یسوی بینہما لظاهر الحدیث

(شرح صحيح مسلم للنووی، المجلد (۶)، الجزء (۱۱)، کتاب الہبات، باب  
کراهة تفضیل بعض الأولاد فی الہبة، رقم الحدیث: ۱۶۲۳، ص ۵۶)

یعنی، ہمارے بعض اصحاب (شافعیہ) نے کہا لڑکے کو لڑکی کا دو گنا دینا  
چاہیے اور صحیح اور مشہور یہ ہے کہ لڑکے کو برابر برابر دینا چاہیے جیسا کہ حدیث  
شریف سے ظاہر ہے۔

حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر متوفی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں:-

جن علماء کرام نے فرمایا اولاد کے مابین مساوات یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی کی مثل  
دے اس قول کے قائلین میں سفیان ثوری اور ابن المبارک ہیں۔

اور لکھتے ہیں:-

کیا تم نے وہ حدیث نہیں دیکھی جو نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے  
فرمایا: سَوُّوا بَیْنَ أَوْلَادِکُمْ فَلَوْ کُنْتُ مُؤَمَّرًا أَحَدًا أَتَرُثُ النِّسَاءَ عَلٰی الرِّجَالِ  
اپنی اولاد میں مساوات کرو، اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں کو مردوں پر

( شرح معانی آثار ، المجلد (۴) ، کتاب الهبة والهدایة ، باب الرجل ينحل بعض

بنیه دون بعض ، ص ۸۹ )

اور فقیہ ابواللیث سمرقندی متوفی ۳۷۳ھ لکھتے ہیں :-

ثم العدل عند أبي يوسف : أن يهب لكل واحد منهم مثل

ما وهب للآخر

یعنی ، پھر امام ابو یوسف کے نزدیک عدل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے اسی کی مثل ہبہ کرے جو دوسرے کے لئے کیا ہو (یعنی سب کو برابر دے)

وعند محمد : أن ( وفي نسخة : أنه ) يهب للابن الثلاثين و للبنات

الثلاث اعتباراً بالميراث

( فتاوی النوازل کتاب الهبة ، قبل فصل فی الصدقة ، ص ۲۴۸ )

یعنی ، امام محمد کے نزدیک میراث کا اعتبار کرتے ہوئے بیٹے کو دو تہائیاں اور

بیٹی کو ایک تہائی ہبہ کرے۔

اور علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں :-

وأما كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف : العدل في ذلك أن

يسوّى بينهم في العطية ، ولا يفضل الذكر على الأنثى

یعنی ، اور مگر اولاد میں انصاف کی کیفیت تو امام ابو یوسف نے فرمایا : اولاد

میں انصاف یہ ہے کہ عطیہ ان کو مساوی دے ، اور مذکر کو مؤنث سے زیادہ نہ دے۔

وقال محمد :

العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل ترتيب الموارث ، للذكر مثل

حظ الأنثيين

كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في ” شرح مختصر

الطحاوي “

( بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، المجلد (۸) ، کتاب الهبة ، فصل فی شرائطها ،

قبل فصل آخر ، ص ۱۱۳ )

یعنی ، اور امام محمد نے فرمایا اولاد کے مابین عدل یہ ہے کہ ان کو تقسیم ترکہ کے

طریقے پر دے بیٹے کو دو بیٹیوں برابر (یعنی بیٹے کو دو تہائیاں اور بیٹی کو ایک تہائی)

قاضی نے ” شرح طحاوی “ میں صاحبین کے درمیان اسی طرح اختلاف کو ذکر کیا ہے۔

اور علامہ حسن بن منصور اور جندی متوفی ۵۹۲ھ لکھتے ہیں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ :-

يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن

یعنی ، بیٹی کو اتنا ہی دے جتنا بیٹے کو دے۔

قال محمد رحمه الله تعالى :

يعطى للذكر ضعف ما يعطى الأنثى

( فتاوی قاضیخان علی هامش الفتاوی الهندیة ، المجلد (۳) کتاب الهبة ، فصل فی

هبة الوالد لولده والهبة للصغير ، ص ۲۷۹ )

یعنی ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : بیٹے کو اس کا دو گنا دے جو بیٹی کو دیا۔

علامہ سراج الدین علی بن عثمان الاوشی الحنفی متوفی ۵۶۹ھ لکھتے ہیں:-

والعدل فی عند ابی یوسف ، أن يعطيهم على السواء  
یعنی، مساوات امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو برابر دے۔

وعند محمد :

أن يعطى على سبيل التوريث للذكر مثل حظ الأنثيين

( الفتاوى السراجية ، كتاب الهبة ، باب أحكام الهدايا ، ص ۹۶ )

یعنی، امام محمد کے نزدیک ان کو وراثت کے طریقے پر بیٹے کو دو بیٹیوں برابر دے گا۔

اسی طرح فقیہ عبدالرحمن المعروف بداماد آفندی متوفی ۱۰۷۸ھ نے

”مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر“ ( ، المجلد (۲) كتاب الهبة ، ص

(۳۵۸

مختار قول :

اور کیفیت عدل میں مختار قول امام ابو یوسف کا ہے چنانچہ فقیہ ابوالفتح ظہیر

الدین عبدالرشید ۵۴۰ھ اور علامہ طاہر بن عبدالرشید بخاری متوفی ۵۴۲ھ لکھتے ہیں:-

رجل له ابن ، وبنت ، فأراد أن يهب لهما شيئاً ، فالأفضل أن يجعل للذكر

مثل حظ الأنثيين عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله

تعالى: يجعل بينهما سواء ، وهو المختار

( الفتاوى الولوجية ، المجلد (۳) ، كتاب الهبة ، الفصل السادس ، ص ۱۳۳ ،

( خلاصة الفتاوى المجلد (۲) ، كتاب الهبة جنس آخر ، نوع منه ، ص ۴۰۰ )

یعنی، کسی شخص کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی پھر اس نے چاہا کہ دونوں کو کوئی چیز ہبہ کرے تو امام محمد کے نزدیک افضل یہ ہے کہ ان کو ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ کے قاعدے کے مطابق دے اور امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں کو برابر دے اور یہی مختار ہے۔

اور علامہ استروشنی حنفی متوفی ۶۳۲ھ لکھتے ہیں:-

وفي ”العيون“ وإذا كان له ابن وبنت أراد أن يبرهما فالأفضل أن

يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين عند محمد رحمه الله تعالى

وعند أبي يوسف رحمه الله يجعل بينهما سواء وهو المختار

( جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ، المجلد (۱) ، في مسائل الهبة

، ص ۱۷۳ )

یعنی، ”العيون“ میں ہے اور جب اس کے بیٹا اور بیٹی ہوں اور وہ دونوں

کے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا

دگنا دے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ دونوں کو برابر

دے اور یہی مختار ہے۔

علامہ ابوالولید ابراہیم بن ابی الیمن محمد بن ابی الفضل المعروف بابن الشحمة

الکبیر حنفی متوفی ۸۱۵ھ اور علامہ حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب کردری حنفی متوفی

۸۲۷ھ لکھتے ہیں:-

الأفضل في هبة الابن والبنت التثليث كالميراث وعند الثاني

التنصيف وهو المختار

(لسان الحکام في معرفة الأحکام مع معین الحکام ، الفصل التاسع عشر في الهبة ،

ص ۳۶۹ ، مطبوعة : بالمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية

۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ م) ( الفتاوى البزازیة علی هامش الفتاوى الهندية ، المجلد (۶) ،

كتاب الهبة ، الجنس الثالث : في هبة الصغير ، نوع ، ص ۲۳۷ )

یعنی ، ایک بیٹے اور ایک بیٹی ہو تو ہبہ کرنے میں میراث کی مثل تین حصے کرنا

(یعنی لڑکے کو دو اور لڑکی کو ایک دینا) افضل ہے اور دوسرے امام (یعنی امام ابو یوسف)

کے نزدیک آدھا آدھا دینا (کہ جتنا لڑکے کو دے اتنا ہی لڑکی کو دینا) افضل ہے اور

یہی مختار ہے۔

اور علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:-

وفي "الخلاصة" المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة

( البحر الرائق ، المجلد (۷) ، كتاب الهبة ، فروع ، ص ۲۸۸ )

یعنی ، "خلاصہ" میں ہے ہبہ میں مذکر و مونث کو برابر دینا مختار ہے۔

فقیہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد آفندی متوفی ۱۰۷۸ھ لکھتے

ہیں:-

والعدل عند أبي يوسف أن يعطيهم على السواء هو المختار

(مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، المجلد (۲) ، كتاب الهبة ، ص ۳۵۸ )

یعنی ، عدل امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ سب کو یکساں دے یہی مختار ہے۔

اور علامہ نظام الدین حنفی متوفی ۱۱۶۱ھ لکھتے ہیں:-

وهو المختار كذا في "الظهيرة"

( الفتاوى الهندية ، المجلد (۴) ، كتاب الهبة ، الباب السادس في الهبة ، ص ۳۹۱ )

یعنی ، یہی مختار ہے اسی طرح "فتاوی ظہیریہ" میں ہے۔

## امام محمد کی دوسری روایت:

اور امام محمد نے جو موطا میں لکھا اس سے امام ابو یوسف کے قول کے مختار

ہونے کی تائید ہوتی ہے چنانچہ امام محمد بن حسن شیبانی موطا میں حدیث نعمان اور اثر ابی

بکر و عمر و عثمان روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

وبهذا كله نأخذ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلة ولا يفضل

بعضه على بعض الخ في

( الموطا للإمام محمد بن الحسن ، كتاب البيوع في التجارات والسلم ، باب في

النحلى ، ص ۳۵۰ )

یعنی ، یہ تمام ہم (مذہب کے طور عمل کے لئے) لیتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے وہ

اپنی اولاد کے مابین عطیہ دینے میں برابری کرے کچھ اولاد کو دوسری اولاد سے زیادہ نہ

دے۔



اور علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:-

وذكر محمد في "الموطأ": ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلي، ولا يفضل بعضهم على بعض وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف، وهو الصحيح، لما روي أن بشيراً أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نعلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله ﷺ: "أكل ولديك نحلته مثل هذا؟" فقال: لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "فارجعه" هذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة، وهو التسوية بينهم

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المجلد (۸)، كتاب الهبة، فصل: في شرائطها، قبل فصل: في حكم الهبة، ص ۱۱۳-۱۱۴)

یعنی، امام محمد نے "موطا" میں ذکر کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے وہ اپنی اولاد کے مابین عطیہ دینے میں مساوات کرے بعض کو بعض سے زیادہ نہ دے۔

امام محمد کے اس قول کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ امام محمد کا قول امام ابو یوسف کے قول کے موافق ہے اور یہی صحیح ہے: اس لئے کہ مروی ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں لائے: عرض کی: میرا غلام تھا وہ میں نے اپنے بیٹے کو بہہ کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس کی مثل دیا ہے؟ عرض کی: نہیں، تو نبی ﷺ نے فرمایا: پھر اس سے رجوع کر لو

“یہ اولاد کے مابین عطیہ دینے میں عدل کرنے کی طرف اشارہ ہے اور عدل یہ ہے کہ دینے میں ان کے مابین مساوات کرے۔

لہذا فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے چنانچہ علامہ حسن بن منصور اور جندی متوفی ۵۹۲ھ لکھتے ہیں:-

والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى

(فتاوى قاضیخان علی هامش الفتاویٰ الہندیہ، المجلد (۳)، کتاب الهبة، فصل: فی ہبة الوالد لولده، ص ۲۷۹)

یعنی، اور فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے۔

اور علامہ علاء الدین حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ اور علامہ نظام الدین حنفی متوفی ۱۶۱۱ھ اور علامہ محمد کامل ابن مصطفیٰ طرابلسی اور قاضیخان اور در مختار کے حوالے سے صدر الشریفہ محمد امجد علی متوفی نے ۱۳۶ھ لکھتے ہیں:-

يعطى البنت كالا بن عند الثاني وعليه الفتوى

(الدرالمختار، المجلد (۵)، کتاب الهبة، ص ۶۹۶)، (الفتاویٰ الہندیہ، المجلد (۴)، کتاب الهبة، الباب السادس فی الهبة للصغير، ص ۳۹۱) (الفتاویٰ الکاملیہ، کتاب الهبة، ص ۱۸۴) (فتاویٰ امجدیہ، المجلد (۳)، کتاب الهبة ص ۲۶۴)

یعنی، دوسرے امام (ابو یوسف) (بیٹی کو بیٹے کی مثل دے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

اس کے تحت علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:-

(قوله: وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف: من أن

التصنيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث هو قول محمد! رملی

(الردالمحتار على الدر المختار، المجلد (٥)، كتاب الهبة، ص ٦٩٦)

یعنی، صاحب در کے قول ”اسی پر فتویٰ ہے“ کا مطلب ہے کہ امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو آدھا آدھا دینا دو تہائی بیٹے کو اور ایک تہائی بیٹی کو دینے سے افضل ہے جو کہ امام محمد کا قول ہے۔ رملی۔

**امام ابو یوسف کے قول کے مختار ہونے کی وجہ:**

۱۔ فقیہ ظہیر الدین عبدالرشید متوفی ۵۴۰ھ لکھتے ہیں:-

لأن به وردت الآثار

( الفتاوی الولوالجیہ ، المجلد (۳) ، کتاب الهبة ، الفصل السادس ، ص ۱۳۳ )

اور علامہ استروشنی حنفی متوفی ۶۳۲ھ لکھتے ہیں:-

لأن الآثار وردت به

( جامع أحكام الصغار علی هامش جامع الفصولین ، المجلد (۱) ، فی مسائل الهبة

، ص ۱۷۳ )

یعنی، احادیث اسی پر وارد ہوئیں (یعنی سب کو برابر دینے پر)۔

اور امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ لکھتے ہیں:-

فی قول النبی ﷺ: ”سَرُّوْا بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ ، كَمَا تُحِبُّوْنَ اَنْ

يُسَوُّوْا لَكُمْ فِي الْبِرِّ“ دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور، لأنه

لا يراد من البنت شيء من البر، إلا الذي يراد من الابن مثله، فلما كان النبي

ﷺ أراد من للأب لولده، ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من

البر، مثل ما يريد من الذكر، كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى، مثل

ما أراد للذكر

یعنی، نبی ﷺ کا فرمان: ”ان کے مابین عطیہ میں مساوات کرو، جیسا کہ تم

چاہتے ہو کہ وہ نیکی و بھلائی میں تمہارے ساتھ مساوات کریں“ یہ فرمان اس کی دلیل

ہے کہ نبی ﷺ نے اس سے بیٹیوں اور بیٹوں میں مساوات کا ارادہ فرمایا، کیونکہ بیٹی

سے کسی نیکی اور بھلائی سے ارادہ نہیں کیا جاتا مگر اسی کا جس کی مثل بھلائی کا ارادہ بیٹے

سے کیا جاتا ہے

پس جب نبی ﷺ نے باپ سے اس کی اولاد کے لئے وہی چاہا اور جو اولاد

سے باپ کے لئے، اور بیٹی سے جس بھلائی کی امید کی جاتی ہے وہ اس بھلائی کی مثل

ہوگئی جس کی امید بیٹے سے کی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

مساوات کا ذکر نہ فرماتے۔

امام ابو جعفر طحاوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ذکر کی کہ:-

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک شخص تھا تو اس شخص کا بیٹا آگیا جس نے چوما

اور اپنی ران پر بٹھالیا پھر اسی شخص کی بیٹی آئی تو اُسے اس نے نہ چوما اور نہ ران پر بٹھالیا

(بلکہ) اپنے ساتھ بٹھالیا، تو (نبی ﷺ نے) فرمایا: ”فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا“ تو نے

ان دونوں میں عدل کیوں نہ کیا۔

أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل ، بين الابنة والابن أن لا يفضل أحدهما على الآخر ، فذلك دليل على ما ذكر في العطية أيضاً

(شرح معاني الآثار ، المجلد (٤) ، كتاب الهبة ، باب الرجل ينحل بعض دون بعض ، ص ٨٩)

یعنی ، کیا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے بیٹی اور بیٹے کے مابین انصاف چاہا کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے پس یہ دلیل ہے اس پر جو ہم نے عطیہ کے بیان میں (بیٹے اور بیٹی کے درمیان مساوات کا) ذکر کیا۔ اور امام ابو جعفر طحاوی کی کتاب ”اختلاف العلماء“ کے اختصار میں امام ابو بکر علی بھصا ص رازی حنفی متوفی ۳۷۰ھ نقل کرتے ہیں :-

فإن كانوا ذكوراً وإنثاء سوى بينهم في العطية ، لقول النبي ﷺ : ”أَكْلٌ وَلَدُكَ أُعْطِيََتْ مِثْلَ مَا أُعْطِيََتْ هَذَا“ ؟

یعنی ، پس اگر بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو ان کے مابین عطیہ میں مساوات کرے کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے ”کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی کی مثل دیا جتنا اس کو دیا“؟ اور لکھتے ہیں :-

صحيح مذهب أبي يوسف في التسوية لأنه قال : ”أَلَا وَلَدٌ“

عَبْرُهُ“ ولم يذكر فرقاً بين الذكر والأنثى ، وقال : ”أَكْلٌ وَلَدُكَ أُعْطِيََتْ مِثْلَ مَا أُعْطِيََتْ هَذَا“ وقال : اتَّقُوا اللَّهَ وَسَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ“ وقوله : ”أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً“ ؟ يدل على التسوية أيضاً

(مختصر اختلاف العلماء ، المجلد (٤) ، كتاب الهبة ، (١٨٤٣) في تخصيص بعض الولد بالهبة ، ص ١٤٢ ، ص ٢٤٤)

یعنی ، اور مساوات کے بیان میں صحیح مذہب امام ابو یوسف کا ہے ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”کیا تیری اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟“ اور بیٹے اور بیٹی میں فرق کا ذکر نہ فرمایا ، اور فرمایا : ”کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی کی مثل دیا ہے؟“ اور فرمایا : ”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں مساوات کرو ، اور نبی ﷺ کا فرمان : ”کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ تیرے لئے نیکی (اور حسن سلوک) میں برابر ہوں؟“ (بیٹے اور بیٹی میں بھی) مساوات (یعنی برابر دینے) پر دلالت کرتا ہے۔

اور علامہ ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطلال نے امام طحاوی کے حوالے سے امام ابو یوسف کے مذہب کی ترجیح میں نبی ﷺ کا فرمان ”أَكْلٌ وَلَدُكَ نَحَلْتُ مِثْلَ هَذَا“؟ الخ بطور دلیل ذکر کیا ہے۔

(شرح صحيح البخاري لابن بطلال ، المجلد (٧) ، كتاب الهبة ، باب الهبة للولد ، ص ١٠٠ - ١٠١)

۲۔ علامہ علی بن سلطان محمد ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں :-

وله : إن العدل هو التسوية لغةً ، والإنصاف من النصف فيصار إليه

(فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية، المجلد (٣)، كتاب (١٥)، ص ٢١٢)

یعنی، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ لغت میں عدل مساوات کو کہتے ہیں اور انصاف نصف سے ماخوذ ہے، لہذا اس مسئلہ میں اسی طرح پھر اجائے گا۔

۳۔ اور علامہ علاؤ الدین کا سانی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:-

ولأن في التسوية تأليف القلوب، والتفضيل يورث الوحشة بينهم، فكانت التسوية أولى

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المجلد (۸) كتاب الهبة، فصل: في شرائطها، قبل فصل آخر، ص ۱۱۴)

یعنی، اولاد کو برابر دینے میں دلوں میں الفت پیدا کرنا ہے اور کسی کو ترجیح دینا ان میں وحشت کو پیدا کرتا ہے تو برابر دینا بہتر ہے۔

اور فقہاء کرام نے فرمایا:

ہبہ بعض اولاد کو بلا وجہ دوسری اولاد پر ترجیح دینے کے بارے میں اصل (مبسوط) میں اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔

چنانچہ علامہ حسن بن منصور اوز جندی متوفی ۵۹۲ھ اور ان سے علامہ نظام الدین حنفی متوفی ۱۱۶۱ھ لکھتے ہیں:-

لو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض لارواية لهذا في الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى (فتاوى قاضیخان علی هامش الفتاوی الهندیة، المجلد (۳)، كتاب الهبة، فصل:

فی هبة الوالد لولده، ص ۳۹۱)

یعنی، اگر کسی شخص نے بحالت صحت اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرنا چاہا اور اس میں کچھ اولاد کو دوسری اولاد پر ترجیح دینے کا ارادہ کیا تو اصل (یعنی مبسوط) میں ہمارے اصحاب (امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ) سے کوئی روایت نہیں ہے۔

اور فقہائے کرام نے بلا وجہ شرعی ہبہ میں بعض کو بعض پر ترجیح دینے کو مکروہ قرار دیا ہے چنانچہ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:-

مكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة (البحر الرائق، المجلد (۷)، كتاب الهبة، فروع، ص ۲۸۸)

یعنی، اور بحالت صحت بعض اولاد کو بعض پر ہبہ میں فضیلت دینا مکروہ ہے۔

کراہت کی صورتیں:

۱۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کچھ کو دینا دوسروں کو محروم کر دینا مکروہ ہے چنانچہ فقیر ابواللیث سمرقندی لکھتے ہیں:-

حتى لو وهب لأحد أولاده دون الآخر يكره

(فتاوی النوازل، كتاب الهبة، ص ۲۴۸)

یعنی، اگر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دیا دوسروں کو نہ دیا تو مکروہ ہے۔

۲۔ اور اگر اولاد فضیلت دینی اور درجہ میں برابر ہوں تو کم زیادہ دینا یا کچھ کو

دینا اور دوسروں کو محروم کرنا مکروہ ہے۔

چنانچہ علامہ استروشی حنفی متونی ۶۳۲ھ لکھتے ہیں :-

فان كان سواء يكره هكذا ذكر في بعض المواضع

(جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ، المجلد (۱) ، في مسائل الهبة ، ص ۱۷۳)

یعنی ، (امام اعظم سے مروی ہے کہ) اگر وہ (سب دینی فضیلت میں) برابر ہوں (تو کسی کو زیادہ دینا) مکروہ ہے اسی طرح بعض مواضع میں ذکر کیا گیا۔

اور علامہ حسن بن منصور اوزجندی متونی ۵۹۲ھ اور ان سے علامہ نظام الدین حنفی متونی ۱۱۶۱ھ لکھتے ہیں :-

فان كان سواء يكره

(فتاویٰ لاضیعہ علی هامش الفتاویٰ الہندیہ ، المجلد (۳) ، کتاب الهبة ، فصل فی ہبة الوالد لولده الصغ ، ص ۲۷۹) ، (الفتاویٰ الہندیہ ، المجلد (۴) ، کتاب الهبة ، الباب السادس فی الهبة للصغير ، ص ۳۹۱)

یعنی ، پس اگر (دونوں اس سے کسی کو بھی دینی فضیلت کی زیادتی حاصل نہ ہو بلکہ اس اعتبار سے) برابر ہوں تو (کی بیش) مکروہ ہے۔

۳۔ عطیہ میں اگر بعض کو ضرر پہنچانا مقصود ہو تو دینے میں برابری نہ کرنا مکروہ

ہے چنانچہ صدر الشریعہ محمد امجد علی متونی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں :-

عطیہ میں اگر یہ ارادہ ہو کہ بعض کو ضرر پہنچائے تو جب میں برابری کرے کم و بیش نہ

یعنی ، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ

یہ بہہ میں ترجیح اس اولاد کی دین میں فضیلت کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔

اور مجد الدین ابوالفتح محمد بن محمود بن الحسین استروشی حنفی متونی ۶۳۲ھ لکھتے

ہیں :-

إذا أراد الرجل أن يفضل بعض أولاده في الهبة في حالة الصحة

روی عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بأس إذا كان التفضيل بسبب زيادة

فضل له في الدين

(جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ، المجلد (۱) ، في مسائل الهبة ،

ص ۱۷۲ - ۱۷۳)

یعنی ، حالتِ صحت میں جب کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو بہہ میں ترجیح

دینے کا ارادہ کرے (تو اس بارے میں) امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ اس

میں کوئی حرج نہیں جبکہ یہ ترجیح دینا اس (اولاد) کی دین میں کسی فضیلت کی زیادتی

کے سبب سے ہو۔

اور علامہ محمد کامل ابن مصطفیٰ طرابلسی حنفی لکھتے ہیں :-

وفی "المنح" روی عن الإمام أنه لا بأس به إذا كان التفضيل

لزيادة فضل له في الدين

(الفتاویٰ الکاملیہ ، کتاب الهبة ، ص ۱۸۴ - ۱۸۵)

یعنی، اور ”الحج“ میں ہے امام اعظم سے مروی ہے اس کوئی حرج نہیں جبکہ اولاد میں سے کسی کو دینے میں ترجیح اس کے دین میں افضل ہونے کی وجہ سے ہو۔ اور علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:-

إلا لزيادة فضل له في الدين

(البحر الرائق، المجلد (۷)، کتاب الہبة، فروع، ص ۲۸۸)

یعنی، (ہبہ میں ایک اولاد کو دوسری اولاد پر ترجیح دینا مکروہ ہے) مگر (جسے زیادہ دیا) اسے دین میں زیادہ فضیلت حاصل ہو (تو مکروہ نہیں)۔ اور صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

اگر ان میں کوئی اولاد دینی ترجیح رکھتی ہو تو اس کو زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ورنہ تمام کو برابر دے۔

(فتاویٰ امجدیہ، المجلد (۳)، کتاب الہبة، ص ۲۵۹)

مفتی محمد وقار الدین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:-

صرف کسی دینی فضیلت کی وجہ سے زیادہ دے سکتا ہے یعنی جو اولاد دیندار ہو اس کو زیادہ دینے میں حرج نہیں۔

(وقار الفتاویٰ، المجلد (۳)، کتاب الفرائض، زندگی میں تقسیم وراثت کا بیان، ص

(۳۶۰)

اور دینی فضیلت کی بنا پر زیادہ دینے میں کسی قسم کی کراہت نہیں چنانچہ صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

ہاں اگر اولاد میں ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت و ترجیح ہے ایسے کو اگر زیادہ دے اور جوڑ کے دنیاوی کاموں میں زیادہ اشتغال رکھتے ہیں انہیں کم دے یہ جائز ہے اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ملخصاً۔

(بہار شریعت، حصہ (۱۴)، ہبہ کا بیان، ص ۶۲)

پھر دینی فضیلت حاصل ہونے کے کئی اسباب ہیں جیسے علم وغیرہ۔

## علم کے سبب فضیلت:

چنانچہ علامہ سراج الدین علی بن عثمان الاوسی الحنفی متوفی ۵۶۹ھ لکھتے ہیں:-

وإن كان بعض أولاد أفضل بالعلم دون الكسب لا بأس أن يفضل على غيره (الفتاویٰ السراجیہ، کتاب الہبة، باب: فی أحكام الهدایا، ص ۱۹۶)

یعنی، اور اگر اس کی کوئی اولاد علم کے سبب افضل ہے نہ کہ کمائی کے سبب تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے دوسری اولاد پر دینے میں ترجیح دے۔

اور پھر علم کے سبب ترجیح طالب علم ہونے کی وجہ سے ہو یا عالم ہونے کی وجہ سے۔

## طالب علم:

فقہ ابو اللیث سمرقندی متوفی ۳۷۳ھ لکھتے ہیں:-

إلا أن يكون أحد أولاده طالب العلم فلا بأس بأن يفضل على غيره

(فتاویٰ النوازل، کتاب الہبة، قبل فصل فی الصدقة، ص ۲۴۸)



یعنی، مگر یہ کہ اس کی اولاد میں کوئی (دینی) طالب علم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے دوسروں پر ترجیح دے۔

## عالم دین:

علامہ سراج الدین علی بن عثمان الاوشی متوفی ۵۶۹ھ اور فقیہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد آفندی متوفی ۱۰۷۸ھ لکھتے ہیں:-

وعلى جواب المتأخرين لأباس بأن يعطى أولاده من كان عالماً متديناً (وفى مجمع الأنهر: متأدباً مكان متديناً)

(الفتاوى السراجية، كتاب الهبة، باب أحكام الهدايا، ص ۹۶)، (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الهبة، ص ۳۵۸)

یعنی، اور متاخرین کے جواب کی بناء پر اپنی اولاد میں اُسے دینے میں کوئی حرج نہیں جو دیندار یا متادب عالم ہو۔

## عالم دین سے مراد:

عالم دین سے مراد وہ عالم ہے جو دین کی خدمت میں مشغول ہو چنانچہ صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

مثلاً ایک عالم ہے جو خدمت علم دین میں مصروف ہے یا عبادت و مجاہدہ میں اشتغال رکھتا ہے اس کو اگر زیادہ دے اور جو لڑکے دنیا کے کاموں میں زیادہ اشتغال

کرے کہ یہ مکروہ ہے۔

(بہار شریعت، حصہ (۱۴)، ہبہ کا بیان، ص ۲۶)

اور اگر کم و بیش دینا کسی مصلحت شرعیہ پر مبنی نہ ہو محض ضرر پہنچانا مقصود ہو تو اس صورت میں دینے والا گنہگار ہو گا چنانچہ صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

اگر اضرار مقصود ہو تو گنہگار ہے۔

(فتاویٰ امجدیہ، المجلد (۳)، کتاب الهبة، ص ۲۶۴)

## وجہ کراہت:

کراہت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فقیہ ابوللیث سرقندی متوفی ۳۷۳ھ لکھتے ہیں:-

اللماروی عن النبی ﷺ قال لذلك الرجل الذي وهب لأحد ولدیه دون الآخر "لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ"

یعنی، (مکروہ اس لئے کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ ﷺ نے اس شخص سے فرمایا جس نے اپنی اولاد میں سے ایک کو ہبہ کیا سوائے دوسرے کے کہ: "میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا"۔

۲۔ ولأنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم

(فتاویٰ النوازل، کتاب الهبة، قبل فصل: فی الصدقة، ص ۲۴۷)

یعنی، کیونکہ عدم مساوات عداوت، بغض اور قطع رحمی تک پہنچا دیتی ہے۔

اور فقہاء کرام نے چند اسباب ایسے ذکر کئے ہیں جن کی بناء پر عطیہ وہبہ میں بعض کو بعض پر ترجیح دینے میں حرج نہیں ہے۔

### ۱۔ عدم اضرار:

جب اس ترجیح سے کسی اولاد کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہو تو کم زیادہ یا اولاد میں کچھ کو دینے اور دوسروں کو نہ دینے میں حرج نہیں۔

چنانچہ علامہ استریشی حنفی متوفی ۶۳۲ھ لکھتے ہیں:-

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يرد الإضرار بالآخر (جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين، المجلد (۱)، في مسائل الهبة، ص ۱۷۳)

یعنی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس سے دوسروں کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہو۔

امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ کی ”کتاب اختلاف العلماء“ کے اختصار میں امام ابو بکر احمد بن علی بھاص رازی حنفی متوفی ۳۷۰ھ نقل کرتے ہیں:-

ذكر المعلى بن منصور عن أبي يوسف: لا بأس يؤثر الرجل بعض ولده على بعض، إذا لم يرد الإضرار، وينبغي أن يسوى بينهم إذا كان يريد (العدل) (وقال المحشي عبد الله نذير أحمد: في الأصل: (الإضرار)

وعدلت لاستقامة العبارة)

(مختصر اختلاف العلماء، المجلد (۴)، كتاب الهبة، (۱۸۴۳) في تخصيص، ص ۱۴۲)

اور علامہ حسن بن منصور اوز جندی اور ان سے علامہ نظام الدین حنفی متوفی

۱۱۶۱ھ لکھتے ہیں:-

وروى المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد الإضرار سوى بينهم

(فتاوى قاضیخان علی هامش الفتاوى الهندية، المجلد (۳)، كتاب الهبة، فصل في هبة الوالد لولده، ص ۲۷۹)، (الفتاوى الهندية، المجلد (۴)، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، ص ۳۹۱)

یعنی، معلى رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس سے (یعنی، کسی کو زیادہ دینے سے) نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو اور اگر اضرار کا قصد ہو تو ان میں برابری کرے۔

اور علامہ علاء الدین ہکفی و علامہ محمد کامل ابن مصطفیٰ محمد طرابلسی حنفی اور قاضیخان اور درمختار کے حوالے سے صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ نقل کرتے ہیں:-

وفي ”الخانية“ لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها محل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده يسوى بينهم

(الدر المختار، المجلد (۵)، كتاب الهبة، ص ۲۹۹)، (الفتاوى الكاملية، كتاب

الہبۃ ، ص ۱۸۴) (فتاویٰ امجدیہ ، المجلد (۳) ، کتاب الہبۃ ، ص ۲۶۴)

یعنی ”خانہ“ میں ہے کسی اولاد کو محبت میں ترجیح دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ محبت کا محل انسان کا دل ہے اور اسی طرح عطیہ میں اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو (تو حرج نہیں) اور اگر اس کا قصد ہو تو اولاد (کو دینے) میں برابری کرے۔

صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

ہاں اگر کم و بیش دینا کسی مصلحت شرعیہ کی بنا پر ہوا ضرار مقصود نہ ہو تو ایسی صورت میں کمی بیشی جائز ہے۔

(فتاویٰ امجدیہ ، المجلد (۳) ، کتاب الہبۃ ، ص ۲۶۴)

## ۲۔ فضیلت دینی:

علامہ حسن بن منصور اور جنیدی متوفی ۵۹۲ھ اور ان سے علامہ نظام الدین حنفی متوفی ۱۱۶۱ھ لکھتے ہیں:-

روی عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لأبأس إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين

(فتاویٰ قاضیخان علی ہامش الفتاویٰ الہندیہ ، المجلد (۴) ، کتاب الہبۃ ، فصل فی ہبۃ الوالد ولده ، ص ۲۷۹) ، (الفتاویٰ الہندیہ ، المجلد (۵) ، کتاب الہبۃ ، الباب

السادس فی الہبۃ للصغیر ، ص ۳۹۱)

بن ابی الفضل المعروف بابن الشنہ الکبیر متوفی ۸۱۵ھ اور حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب کردری حنفی متوفی ۸۲۷ھ لکھتے ہیں:-

ولو كان ولده (وفى لسان الحكام ، والبزازية : ابنه) فاسقاً لا يعطيه أكثر من قوته

(خلاصۃ الفتاویٰ ، المجلد (۲) ، کتاب الہبۃ ، جنس آخر ، نوع منہ ، ص ۴۰۰) ، (لسان الحکام فی معرفۃ الأحکام مع معین الحکام ، الفصل التاسع عشر فی الہبۃ ، ص ۳۶۹) ، (الفتاویٰ البزازیۃ علی ہامش الفتاویٰ الہندیہ ، المجلد (۶) ، کتاب الہبۃ ، الجنس الثالث فی ہبۃ الصغیر ، نوع ، ص ۲۳۷)

یعنی ، اور اسی طرح اگر اس کا بیٹا فاسق ہو تو اُسے اس کے کھانے پینے کے خرچ سے زیادہ نہ دے۔

اور علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:-

ولو كان ولده فاسقاً لا يعطى له أكثر من قوته

(البحر الرائق ، المجلد (۷) ، کتاب الہبۃ ، فروع ، ص ۲۸۸)

یعنی ، اور اگر اس کی اولاد فاسق ہو تو اس کو کھانے پینے سے زیادہ نہ دیا جائے۔

## فاسق کو اس سے زیادہ نہ دینے کی وجہ :

علامہ استروشنی حنفی متوفی ۶۳۲ھ لکھتے ہیں:-

وإن كان فاسقاً لا ينبغي له أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير

معيناً له على المعصية

(جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين، المجلد (١)، في مسائل الهبة، ص ١٧٣)

یعنی، اور اگر اس کی اولاد میں سے کوئی فاسق ہو تو اُسے اس کے خورد و نوش سے زیادہ نہیں دینا چاہئے تاکہ دینے والا معصیت پر اس کا مددگار نہ بن جائے۔ اور علامہ نظام الدین حنفی متوفی ١١٦١ھ اور علامہ محمد کامل ابن مصطفیٰ طرابلسی "خزانة المفتين" سے نقل کرتے ہیں :-

إن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير معيناً في المعصية

(الفتاوى الهندية، المجلد (٤)، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، ص ٣٩١) (الفتاوى الكاملية، كتاب الهبة، ص ١٥٨)

یعنی، اسی طرح اگر اس کی اولاد میں کوئی فاسق ہو تو اس کو خورد و نوش کے خرچ سے زیادہ نہیں دینا چاہئے تاکہ باپ اس اولاد کی معصیت میں اس کا مددگار نہ بن جائے۔

**فسق و فجور سے مراد:**

اب سوال یہ ہے کہ اولاد کا وہ کون سا فسق و فجور ہے جس کی بنا پر انہیں خورد و نوش سے زیادہ دینا منع ہے اس کا جواب یہی ہے کہ وہ فسق و فجور مراد ہے جس کا تعلق

مال و دولت سے ہو کیونکہ فقہائے کرام نے خورد و نوش سے زیادہ نہ دینے کی علت، بیان کرتے ہوئے لکھا "تاکہ باپ اُس اولاد کی معصیت میں مددگار نہ بن جائے"۔

**فاسق اولاد کے لئے ترکہ:**

اولاد اگر فاسق فاجر ہو اور ترکہ میں مال و دولت ملنے پر اُس کا فسق و فجور بڑھ جانے کا اندیشہ ہو جیسے خدا نخواستہ اولاد جواری اور شرابی ہو تو ایسی صورت کے لئے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اپنا مال کا خیر میں صرف کر دینا بہتر ہے کہ ترکہ میں مال و دولت ملنے کی صورت میں اس کے فسق و فجور میں اضافہ ہوگا۔

چنانچہ علامہ ابو الولید ابراہیم بن ابی الیسن محمد بن ابی الفضل المعروف بابن الشحنة الکبیر متوفی ٨١٥ھ اور حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب کردری حنفی متوفی ٨٤٢ھ لکھتے ہیں :-

وإن أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق فالصرف إلى

الخير أفضل من تركه له لأنه إعانة على المعصية

(لسان الحکام فی معرفة الأحکام مع معین الحکام، الفصل التاسع عشر، ص

٣٦٩)، (الفتاوى البرازية على هامش الفتاوى الهندية، المجلد (٦)، كتاب الهبة،

الجنس الثالث في هبة الصغير، فروع، ص ٢٣٧)

یعنی، اور اگر اس نے اپنا مال کا خیر میں صرف کرنے کا ارادہ کیا اس حال میں کہ اس کا بیٹا فاسق ہو تو مال کا خیر میں صرف کرنا فاسق بیٹے کے لئے چھوڑنے سے

رکھتے ہیں انہیں کم دے یہ جائز ہے اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں

(بہار شریعت، حصہ، (۱۴)، ہبہ کا بیان، ص ۶۲)

حاصل کلام یہ ہے علم دین سے وابستگی ایک بڑی فضیلت ہے اور اس فضیلت کی وجہ سے عطیہ و ہبہ میں زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

اور علامہ ناصر الدین ابوالقاسم محمد بن یوسف سمرقندی متوفی ۵۵۶ھ لکھتے ہیں اور ان سے فقیہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد آفندی متوفی ۱۰۷۸ھ اور علامہ نظام الدین حنفی متوفی ۱۱۶۱ھ اور علامہ محمد کامل ابن مصطفیٰ طرابلسی نقل کرتے ہیں :-

إذا أحدهم مشتغلاً بعلم (وفی المجموع والکاملية: بالعلم) لا بالكسب (وفی المجموع: دون الكسب) فلا بأس أن يفضله على غيره (وفی الکاملية) أي ولا يكره

(المستقط في الفتاوى الحنفية، كتاب الهبة والصدقة، مطلب: على الأب العدل الخ، ص ۳۱۰)، (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، المجلد (۳)، كتاب الهبة، ص ۳۵۸)، (الفتاوى الهندية، المجلد (۴)، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، ص ۳۹۱)، (الفتاوى الکاملية، كتاب الهبة، ص ۱۸۴)

یعنی، جب اولاد میں سے کوئی علم دین کے ساتھ مشغول ہو نہ کہ حصول رزق حلال میں مصروف ہو تو اس کو دوسروں پر ترجیح دینے میں کوئی حرج نہیں یعنی مکروہ نہیں ہے۔

افضل ہے۔

اور علامہ طاہر بن عبدالرشید متوفی ۵۴۲ھ اور علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں :-

ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية (خلاصة الفتاوى، المجلد (۲)، كتاب الهبة، جنس آخر، نوع منه، ص ۴۰۰)، (البحر الرائق، المجلد (۷)، كتاب الهبة، فروع، ص ۲۸۸)

اور خلاصہ کے حوالے سے علامہ نظام الدین حنفی متوفی ۱۱۶۱ھ لکھتے ہیں :-

ولو كان ولده فاسقاً وأراد أن يصرف ماله في وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا في "الخلاصة" (الفتاوى الهندية، المجلد (۴)، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، ص ۳۹۱)

علامہ محمد کامل ابن مصطفیٰ طرابلسی حنفی نقل کرتے ہیں :-

وفى "الخلاصة" ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير يحرمه عن الميراث هذا خير من تركه اه أى للولد علله البزازية بالعلة المذكورة

(الفتاوى الکاملية، كتاب الهبة ص ۱۸۵)

یعنی، اور اگر اس کی اولاد میں کوئی فاسق ہو اور باپ کا اپنا مال خیر کے کاموں

فائدہ:

دین کی خدمت کرنے والے کو زیادہ دینے سے فائدہ یہ ہے کہ جس قدر اُسے زیادہ ملے گا اتنی ہی اُسے فکر معاش سے آزادی دینی اور خدمت میں انہماک حاصل ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ دینی خدمت انجام دے سکے گا اور اگر وہ کسب معاش میں مشغول ہوگا تو اس عظیم خدمت میں حرج ہوگا چنانچہ صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

مثلاً ایک خدمت دین میں مشغول ہے کہ کسب معیشت میں مشغول ہو تو اس خدمت میں نقصان واقع ہوگا تو ایسی صورتوں میں کمی بیشی جائز ہے۔ ملخصاً

(فتاویٰ امجدیہ، المجلد (۳)، کتاب الہبة، ص ۲۶۴)

زیادہ نیکوکاری کے سبب:

علامہ استروشی حنفی متوفی ۶۳۲ھ لکھتے ہیں:-

وذكر في بعض المواضع إن كان التفضيل بسبب زيادة برّه فلا

بأس بذلك وإن كانا في البرّ سواء لا ينبغي له أن يفعل ذلك

(جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين، المجلد (۱)، في مسائل الہبة

ص ۱۷۳)

یعنی، بعض مواضع پر مذکور ہے کہ (ہبہ میں) ترجیح دینا اس (اولاد) کی زیادہ نیکوکاری کی وجہ سے ہے تو اس (یعنی ہبہ میں دوسروں پر ترجیح دینے) میں کوئی حرج

نہیں۔ اور اگر (کسی کی دو اولادیں ہوں اور وہ دونوں) نیکوکاری میں برابر ہوں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے (یعنی ایک کو دوسرے سے زیادہ نہیں دینا چاہیے)۔

۴۔ زیادتی رُشد کے سبب:

اولاد میں سے کوئی اولاد دوسروں سے زیادہ راست باز، ہدایت یافتہ ہے تو اس وجہ سے اُسے دوسرے سے زیادہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری متوفی ۵۴۲ھ اور علامہ ابوالولید ابراہیم المعروف بابن الشخہ الکبیر متوفی ۸۱۵ھ اور حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب کردری حنفی متوفی ۸۲۷ھ لکھتے ہیں:-

ولو خصّ بعض أولاده لزيادة رُشدہ فلا بأس به (وفی البزازیة: لا بأس به) وإن كانوا سواء في الرشد لا يفعله (وفی البزازیة: وإن كانا سواء

لا يفعله) (وفی الخلاصة: وإن كان سواء لا ينبغي أن يفضل)

(خلاصة الفتاوى، المجلد (۳)، کتاب الہبة، جنس آخر، نوع منه، ص ۴۰۰)،

(لسان المحکام فی معرفة الأحکام، الفصل التاسع عشر فی الہبة، ص ۳۶۹)،

(الفتاویٰ البزازیة علی هامش الفتاویٰ الہندیة، المجلد (۶)، کتاب الہبة، الجنس

الثالث: فی هبة الصغیر، نوع، ص ۲۳۷)

یعنی، اگر اس نے اپنی کسی اولاد کو اس کے زیادہ راہ راست پر چلنے اور

ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پر دوسروں سے زیادہ دیا تو اس میں کوئی حرج

نہیں اور اگر رُشد و ہدایت میں برابر ہوں تو ایسا نہ کرے۔



## فاسق اولاد کا حکم:

خدا نخواستہ اولاد میں سے کوئی فاسق، فاجر ہو تو فقہاء کرام نے اُسے عطیہ و ہبتہ کچھ دینے سے منع کیا ہے۔

چنانچہ علامہ سراج الدین علی بن عثمان الاوسی الحنفی متوفی ۵۶۹ھ لکھتے ہیں:-

ولا يعطى من كان منهم فاسقاً فاجراً مذكورة في ”شرح الطحاوی“

(الفتاوی السراجیة، کتاب الہبة، باب أحكام الهدایا، ص ۹۶)

یعنی، اور ان میں سے جو فاسق و فاجر ہوا سے نہ دے (یہ) ”شرح الطحاوی“

میں مذکور ہے

فقہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد آفندی متوفی ۱۰۷۸ھ لکھتے

ہیں:-

ولا يعطى منهم من كان فاسقاً فاجراً

(مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، المجلد (۲)، کتاب الہبة، ص ۳۵۸)

یعنی، ان میں سے جو فاسق فاجر ہوا سے نہ دے۔

## فاسق اولاد کو کتنا دے؟ :

فاسق اولاد کو صرف کھانے پینے کا خرچ دے اس سے زیادہ نہ دے چنانچہ

علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری متوفی ۵۴۲ھ اور علامہ ابوالولید ابراہیم بن ابی الیمن محمد

میں صرف کرنے اور اس فاسق کو میراث سے محروم کرنے کا ارادہ ہو، یہ اس کو چھوڑنے سے بہتر ہے (فتاویٰ کالمیہ میں ہے) یعنی اپنی اس اولاد کے لئے (ترکہ چھوڑنے سے بہتر ہے) اور صاحب بزاز یہ نے اس کی علت کے بیان میں مذکورہ علت ذکر کی (یعنی ایسی اولاد کے لئے مال ترکہ میں چھوڑ جانے میں اُس کی معصیت پر اعانت ہے)۔  
یہاں بھی فسق و فجور سے مراد وہ فسق و فجور ہے جس میں ترکہ میں مال چھوڑنے والا اُس فاسق کی معصیت میں اُس کا معین و مددگار بنے جیسے کا مندرجہ بالا عبارات فقہاء سے ظاہر ہے۔

### گل مال کسی ایک کو ہبہ کر دینا:

جو کچھ ذکر ہوا وہ حکم دیانت کا تھا، قضاء کا حکم یہ ہے کہ بحالتِ صحت وہ اپنا سارا مال کسی ایک اولاد کو دے دے اور دوسروں کو کچھ نہ دے تو یہ کر سکتا ہے کہ اس کا یہ ہبہ نافذ ہو جائے گا۔

چنانچہ علامہ طاہر بن عبدالرشید بخاری متوفی ۵۴۲ھ اور علامہ ابوالولید ابراہیم المعروف بابن اثیم الکبیر متوفی ۸۱۵ھ اور حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب کردری حنفی متوفی ۸۲۷ھ لکھتے ہیں:-

ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز (وفي خلاصة الفتاوى: في القضاء)  
(خلاصة الفتاوى، المجلد ۲)، کتاب الہیۃ، جنس آخر، نوع منہ، ص ۴۰۰،  
(لسان الحکام فی معرفۃ الأحکام مع معین الحکام، الفصل التاسع عشر فی الہیۃ،

ص ۳۶۹)، (الفتاویٰ البزازیة علی هامش الفتاویٰ الہندیة، المجلد (۶)، کتاب  
الہیة، الجنس الثالث فی ہیة الصغیر، نوع، ص ۲۳۷)

یعنی، اپنا جمع مال اگر کسی ایک بیٹے کو ہبہ کر دے تو کر سکتا ہے۔

اور علامہ علاء الدین ہسکفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:-

ولو وهب فی صحته کل المال للولد جاز

(الدر المختار، المجلد (۵)، کتاب الہیة، ص ۶۹۹)

یعنی، اگر اپنی صحت میں اپنا کل مال کسی اولاد کو ہبہ کر دیا تو کر سکتا ہے۔

اور ایسا کرنا بحکم قضاء جائز ہے نہ کہ بحکم دیانت جیسا کہ فقیہ ظہیر الدین

عبدالرشید متوفی ۵۴۰ھ لکھتے ہیں:-

فإن جعل ماله كله للابن جاز فی القضاء

(الفتاویٰ الولولہیة، المجلد (۳)، کتاب الہیة، الفصل السادس، ص ۱۳۳)

یعنی، پس اگر اپنا کل مال کسی ایک بیٹے کے لئے کر دیا تو بحکم قضاء جائز ہے۔

اور علامہ حسن بن منصور اوزجندی متوفی ۵۹۲ھ اور ان کے حوالے سے

علامہ نظام الدین خفی متوفی ۱۱۶۱ھ لکھتے ہیں:-

رجل وهب فی صحته کل المال للولد جاز فی القضاء

(فتاویٰ قاضیخان علی هامش الفتاویٰ الہندیة، المجلد (۳)، کتاب الہیة، فصل

فی ہیة الوالد لولده الخ، ص ۲۷۹)، (الفتاویٰ الہندیة، المجلد (۴)، کتاب الہیة،

الباب السادس فی الہیة للصغیر، ص ۳۹۱)

یعنی، کسی شخص نے اپنا مال کسی اولاد کو ہبہ کر دیا تو بحکم قضاء جائز ہے۔

اور مجد الدین ابوالفتح محمد بن محمود بن الحسین استروشی خفی متوفی ۶۳۲ھ لکھتے

ہیں:-

وإن وهب ماله للابن كله جاز فی القضاء

(جامع أحكام الصغار علی هامش جامع الفصولین، المجلد (۱)، فی مسائل الہیة

، ص ۱۷۳)

یعنی، اگر اُس نے اپنا کل مال بیٹے کو ہبہ کر دیا تو بحکم قضاء جائز ہے۔

اور علامہ زین الدین ابن نجیم متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:-

وإن وهب ماله كله لواحد جاز قضاء

(البحر الرائق، المجلد (۷)، کتاب الہیة، فروع، ص ۲۸۸)

یعنی، اور اگر اُس نے اپنا کل مال کسی ایک بیٹے کو ہبہ کر دیا تو قضاء جائز ہے۔

اور صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

(سابقہ حکم دیانت کا تھا) اور قضاء کا حکم یہ ہے کہ وہ حالت صحت میں اپنا سارا مال ایک

ہی لڑکے کو دے دے اور دوسروں کو کچھ نہ دے یہ کر سکتا ہے۔ ملخصاً

(بہار شریعت، حصہ، (۱۴)، ہبہ کا بیان، ص ۶۲ - ۲۳)

## حکم قضا کا مطلب:

حکم قضا کا مطلب یہ ہے کہ ہبہ اگر ان شرائط کے مطابق ہو جو شرع نے

مقرر کی ہیں تو اس ہبہ کے بعد وہ اولاد موہوبہ مال کی مالک ہو جاتی ہے اگرچہ واہب (ہبہ کرنے والے) نے اپنی کل جائیداد کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو ہی کیوں نہ دے دی ہو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے اور اُسے اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جسے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

:كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ

یعنی ہر مال والا اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے

اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام بیہقی نے ابن وہب سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:-

اس کا جو چاہے کرے۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی، برقم: ۱۲۰۰۷)

اسی طرح یہ بھی پہلے ذکر کیا گیا کہ علامہ ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطل لکھتے ہیں:-

ولما أجمعوا على أنه مالك مال وأن له أن يعطيه من شاء من الناس ،  
كذلك يجوز أن يعطيه من شاء من ولده

(شرح صحيح البخاری لابن بطل ، المجلد (۷) ، کتاب الهبة ، باب الهبة للولد الخ ص ۶۰۰)

یعنی، جب علماء کرام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ وہ اپنے مال کا مالک ہے اس کو جائز ہے کہ وہ اپنا مال لوگوں میں سے جسے چاہے دے دے اسی طرح اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنا مال اپنی اولاد میں سے جسے چاہے دے دے۔

لہذا باپ اگر بحالت صحت اپنی ساری جائیداد کسی ایک اولاد کو دے دے تو دوسروں کو کسی قسم کے مطالبے کا حق نہیں۔ کئی پڑھ لکھے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے والد سے یوں مطالبہ کرتے آپ کی جائیداد میں ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دے دو۔ یہ ان کی نادانی ہے کیونکہ مالک جب تک زندہ صحیح سلامت ہے اس کے مال میں سوائے اس حق کے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مال میں رکھا ہے کسی کا کوئی حق نہیں۔ والدین اگر دیتے ہیں یہ ان کا احسان ہے نہ یہ کہ ہمارا حق تھا جو انہوں نے ادا کر دیا۔

چنانچہ صدر الشریعہ امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:-

وہ اپنے مال کا مالک ہے حالت صحت میں اپنا سارا مال ایک ہی لڑکے کو دے دے اور دوسروں کو کچھ نہ دے یہ کر سکتا ہے اور دوسرے لڑکے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔

(بہار شریعت، حصہ (۱۴)، ہبہ کا بیان، ص ۶۲ - ۲۳)

گناہ :

بلا وجہ شرعی کل مال اولاد میں سے کسی ایک کو ہبہ کر کے دوسری اولاد کو محروم کر دینا گناہ ہے چنانچہ علامہ علاؤ الدین حصکفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:-

اگر کل مال کسی ایک اولاد کو ہبہ کر دیا تو جائز ہے اور ایسا کرنے والے نے گناہ کیا۔

(الدر المختار، المجلد (۵)، کتاب الہبۃ، ص ۶۹۹)

اور ایسا کرنے والے کو فقہاء کرام نے گنہگار کہا ہے چنانچہ علامہ زین الدین

ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:-

وهو آثم كذا في "المحيط"

(البحر الرائق، المجلد (۷)، کتاب الہبۃ، فروع، ص ۲۸۸)

اور علامہ حسن بن منصور اوز جندی اور ان کے حوالے سے علامہ نظام الدین

حنفی لکھتے ہیں:-

ويكون آثما فيما صنع

(فتاویٰ قاضیخان، علی ہامش الفتاویٰ الہندیۃ، المجلد (۳)، کتاب الہبۃ، فصل

فی ہبۃ الوالد لولده و ہبۃ الصغیر، ص ۲۷۹)، (الفتاویٰ الہندیۃ، المجلد (۴)،

کتاب الہبۃ، الباب السادس فی الہبۃ للصغیر، ص ۳۹۱)

یعنی، اور جو اس نے کیا اس میں وہ گنہگار ہے۔

(بہار شریعت، حصہ، (۱۴)، ہبہ گایان، ص ۲۳)

اور علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری متوفی ۵۴۲ھ اور علامہ ابو الولید ابراہیم

المعروف بابن الشیمہ الکبیر متوفی ۸۱۵ھ اور حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب کردری حنفی

متوفی ۸۲۷ھ لکھتے ہیں:-

وهو آثم نصّ عليه محمد رحمه الله تعالى

(وفی الخلاصۃ: ہکذا فی العیون) (خلاصۃ الفتاویٰ، المجلد (۲)، کتاب الہبۃ،

جنس آخر، نوع منہ، ص ۴۰۰)، (لسان الحکام فی معرفۃ الأحکام مع معین الحکام

، الفصل التاسع عشر فی الہبۃ، ص ۳۶۹)، (الفتاویٰ البزازیۃ علی ہامش الفتاویٰ

الہندیۃ، المجلد (۶)، کتاب الہبۃ، الجنس الثالث: فی ہبۃ الصغیر، ص ۲۳۷)

اور فقیہ ابوالفتح ظہیر الدین عبدالرشید متوفی ۵۴۰ھ اور علامہ مجد الدین ابو

الفتح محمد بن محمود استروشی متوفی ۶۳۲ھ لکھتے ہیں:-

وهو آثم نصّ عليه محمد (رحمه الله تعالى) لأن رسول الله ﷺ (وفی

الجامع: وقد صحّ أن رسول ﷺ) قال فی مثل هذه الصورة "اتق الله

تعالى"

(الفتاویٰ الولواجیۃ، المجلد (۳)، کتاب الہبۃ، الفضل السادس، ص ۱۳۳)،

جامع أحكام الصغار علی ہامش جامع الفصولین، المجلد (۲) فی مسائل الہبۃ،

ص ۱۷۳)

یعنی، اور وہ گنہگار ہوا اس پر امام محمد علیہ الرحمہ نے تصریح فرمائی، کیونکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے ایسی ہی صورت

کے لئے فرمایا: "اللہ سے ڈرو"۔

علامہ محمد کامل ابن مصطفیٰ طرابلسی کے فتاویٰ میں ہے:-

سئلت عن هبة الوالد لابنته كل ماله حال صحته وطوعه و تمام

عقله هل تجوز؟ فالجواب:- قال فی "الدر المختار" ولو هب فی

صحته كل المال للولد جاز وأثم اه وفي "الحاشية" قوله: كل المال للولد أى وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك فيمن ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب وقوله: جاز أى صح ولا ينقض وفى بعض المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثاً لكل الورثة اه  
(الفتاوى الكاملية، كتاب الهبة، ص ۱۸۴)

یعنی، سوال:-

”والد کا اپنی صحت اور ہوش وحواس میں راضی خوشی اپنا تمام مال اپنی بیٹی کو

ہبہ کرنا جائز ہے؟

جواب:-

”در مختار“ میں فرمایا: اور اگر اپنی صحت میں تمام مال کسی ایک اولاد کو ہبہ کر دے تو جائز ہے اور اس سے وہ گنہگار ہوگا..... حاشیہ میں ہے: مصنف کا قول: ”اپنا کل مال کسی ایک اولاد کو ہبہ کرنا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ ورثہ کو محروم کرنے کا ارادہ کیا جیسا کہ اس طرح وہ شخص کرے جس نے اولاد میں ایک ہی بیٹی چھوڑی اور اُسے عصبات کے ترکہ میں شریک ہونے کا خوف ہو، اور مصنف کے قول: ”جائز ہے“ کا مطلب ہے یہ ہبہ (قضاء) جائز ہے اور اس ہبہ کو توڑا نہ جائے گا، اور بعض مذاہب میں اس کا ارادہ اس پر رد کر دیا جائے گا اور اس کا ترکہ تمام ورثہ کی میراث قرار دیا جائے گا

کل یا کچھ ورثہ کو محروم کرنا ممنوع ہے:

اپنا سارا مال کسی ایک یا چند کو ہبہ کر کے بقیہ تمام یا چند کو بلاوجہ شرعی محروم کر دینا ممنوع ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ وہ اپنے والد (سعد بن ابی وقاص ؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ:-

رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے سال میری بیمار پردیسی کے لئے تشریف لایا کرتے تھے، میری بیماری سخت ہوگئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: میری بیماری انتہائی درجہ کو پہنچ گئی ہے، میں مالدار آدمی ہوں اور میری وارث صرف ایک لڑکی ہے أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ (وفی رواية: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ (صحيح البخاری، برقم: ۲۷۴۲)، وفی رواية أخرى: أُوصِي بِالنِّصْفِ صحيح البخاری برقم: ۲۷۴۳، ۳۹۳۲) قَالَ: ”لَا“ فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟، فَقَالَ: ”لَا“، ثُمَّ قَالَ: ”الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ“ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِيْ أُمْرَاتِكَ“ یعنی، کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ (اور ایک روایت میں کل مال کا ذکر ہے آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں“، عرض کی: آدھا مال، فرمایا: ”نہیں“ پھر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”تہائی مال صدقہ کرنا کافی ہے“ اور تہائی بھی بڑا صدقہ یا بہت صدقہ ہے، اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو محتاج لوگوں کے سامنے



ہاتھ پھیلاتا ہوا چھوڑ جائے، اور تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے جو کچھ خرچ کرے گا اس پر تجھے اجر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ تو جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا۔

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب رثاء النبی ﷺ سعد بن حولة، برقم: ۱۲۹۵، و کتاب الوصایا، باب أن یرک ورثہ أغنیاء الخ، برقم: ۲۷۴۲، و باب الوصیة بالثلث، برقم: ۲۷۴۴، و کتاب مناقب الأنصار، باب قول النبی ﷺ: "اللهم أمض لأصحابی هجرتهم" الخ، برقم: ۲۹۳۲، و کتاب النفقات، باب فضل النفقة علی الأهل الخ، برقم: ۵۳۵۴، و کتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، برقم: ۶۳۷۲، و کتاب الفرائض، باب میراث البنات، برقم: ۶۷۳۳، و صحیح مسلم، کتاب الوصیة، باب الوصیة، باب ماجاء فیما یجوز للموصی فی مالہ، برقم: ۲۸۶۴، و سنن النسائی، کتاب الوصایا، باب الوصیة بالثلث، برقم: ۳۶۵۶ - ۳۶۵۷ - ۳۶۵۸ - ۳۶۵۹ - ۳۶۶۰ - ۳۶۶۶، و الموطأ للأمام مالک بن أنس، کتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث، برقم: ۴، و سنن الدارمی، کتاب الوصایا، باب الوصیة بالثلث، برقم: ۳۱۹۵، ۳۱۹۶)

لہذا بلاوجہ شرعی کل یا کچھ اولاد کو محتاج چھوڑ جانا ممنوع ہے اولاد کو مال کی حاجت نہ ہو کہ وہ خود مالدار ہوں پھر بھی کل مال کی وصیت سے منع کیا گیا چنانچہ امام ترمذی کی روایت میں ہے:-

قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: "فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟" قَالَ هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ قَالَ: "أَوْصِ بِالْعُسْرِ" قَالَ: "فَمَا زِلْتُ أَنَا قِصُّهُ حَتَّى قَالَ:"

أَوْصِ بِالْثُلُثِ وَالْثُلُثِ كَثِيرٌ

(جامع الترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی الوصیة بالثلث والرابع، برقم: ۹۷۵) یعنی، حضرت سعد بن مالک ؓ نے عرض کی: میں نے اپنے کل مال کی اللہ کی راہ میں وصیت کی، فرمایا: "اپنی اولاد کے لئے تو نے کیا چھوڑا؟" عرض کی: بخیر مالدار ہیں، فرمایا: دسویں حصے کی وصیت کر، بیان کرتے ہیں کہ میں مسلسل (ان کے حصے کو) کم کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: "ایک تہائی صدقہ کافی ہے تہائی بھی بڑا صدقہ ہے۔"

اس لئے صحابہ کرام علیہم الرضوان ثلث (ایک تہائی) سے کم کی وصیت کو مستحب جانتے تھے جیسا کہ "جامع ترمذی" کے مذکورہ باب اور "صحیح مسلم" کے کتاب الہبة، باب الوصیة بالثلث (برقم: ۱۰/۱۶۲۹) میں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے تہائی کو بھی بڑا صدقہ یا بہت صدقہ فرمایا ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

المفتی محمد عطاء اللہ النعیمی

الخمیس، ۱۱ جمادی الأولى ۱۴۲۶ھ

۹ جون ۲۰۰۵ء

رئیس دارالافتاء

(جمعیت اشاعت اہلسنت، پاکستان)

الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

خ - خلاصه الفتاوى، مطبوعة: المكتبة الرشيدية، كوثه

د - الدر المختار، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

د - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، مطبوعة: دارالأرقم، بيروت

ر - الرد المحتار على الدر المختار، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة الثانية

١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

س - سنن ابن ماجه، مطبوعة: دارالسلام والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

س - سنن أبي داود، مطبوعة: دارالسلام والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

س - سنن الدارقطني، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ

١٩٩٦ م

س - سنن الدارمي، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ

١٩٩٦ م

س - سنن الكبرى للبيهقي، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

س - سنن الكبرى للنسائي، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

س - سنن النسائي، مطبوعة: دارالسلام والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

ش - شرح السنة، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ

٢٠٠٣ م

ش - شرح صحيح البخاري لابن بطال، مطبوعة: مكتبة الرشيد، بيروت، الطبعة

## مأخذ و مراجع

ء - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، علماء الأقطار، مطبوعة:

دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

ء - الإحسان بشرتيب صحيح ابن حبان، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت،

الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

ء - إكمال المعلم بفوائد المسلم، مطبوعة: دارالوفاء، بيروت، الطبعة الأولى

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ب - البحرائق شرح كنز الدقائق، مطبوعة: إيج ايم سعيد كمپني، كراتشي

ب - البخاري بشرح الكرمانى، مطبوعة: دراحياء التراث العربى، بيروت، الطبعة

الثالثة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

ب - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة

الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ب - بهار شريعت، مطبوعة: مكتبة اسلاميه، لاهور

ت - التمهيد لما فى الموطا من المعانى والمسانيد، مطبوعة: دارالكتب العلمية،

بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ

ج - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين، مطبوعة: بالمطبعة الأزهرية،

الطبعة الأولى ١٣٠٠ هـ

١٩٩٩ م

ج - جامع الترمذى، مطبوعة: دارالسلام والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

ح - حاشية السورتى على شرح معانى الآثار، مطبوعة: عالم الكتب، بيروت،

الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

ش - شرح صحيح مسلم للنووي، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة

الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

ش - شرح معاني الآثار، مطبوعة: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ -

١٩٩٤ م

ص - صحيح البخاري، مطبوعة: دارالسلام والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة

الثانية ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

ص - صحيح مسلم، مطبوعة: دارالسلام والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى

الثانية ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

ط - طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية، مطبوعة: قديمي كتب خانة، كراتشي

ع - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مطبوعة: دارالفكر، بيروت، الطبعة

الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

ف - فتاوى أمجدية، مطبوعة: مكتبة رضويه، كراتشي

ف - الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية، مطبوعة: دارالمعرفة، بيروت،

الطبعة الثالثة ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

ف - الفتاوى السراجية، مطبوعة: مير محمد كتب خانة، كراتشي

ف - فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية، مطبوعة: دارالمعرفة، بيروت،

الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٣ م

ف - الفتاوى الكاملية، مطبوعة: المكتبة الحقانية، بشاور

ف - فتاوى النوازل، مطبوعة: مير محمد كتب خانة، كراتشي

ف - الفتاوى الولوالجية، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ف - الفتاوى الهندية، مطبوعة: دارالمعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ -

١٩٧٣ م

ف - فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية، مطبوعة: داراحياء التراث العربي،

بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ف - فتح الباري شرح صحيح البخاري، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت،

الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

ف - فقه السنة مطبوعة: مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٠ م

ك - كتاب الاختيار لتعليل المختار، مطبوعة: دارالمعرفة، بيروت، الطبعة الأولى

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

ل - لسان المحكمات في معرفة الأحكام مع معين المحكمات، مطبوعة: بالمطبعة مصطفى

الهاشي الحلبي وأولاده بمصر،

م - المبسوط (شرح الكافي)، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

م - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، مطبوعة: دارالطبعة العامرة، مصر ١٣١٦ م

م - مختصر اختلاف العلماء، مطبوعة: دارالبشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة

الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

م - المسند، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ -

١٩٨٥ م

م - مشكاة المصابيح، مطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ -

٢٠٠٣ م

م - المنجد، مطبوعة: مكتبة قدوسيه، لاهور، اشاعت ٢٠٠٢ م

م - الموطن للإمام مالك بن أنس، مطبوعة: داراحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة

الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

م - الموطأ للامام محمد بن الحسن ، مطبوعة : قديمى كتب خانة ، كراتشى  
نمبر (9) م - المسوّى شرح الموطأ ، مطبوعة : دارالكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة

الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

م - الملتقط فى الفتاوى الحنيفة ، مطبوعة : دارالكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

و - وقار الفتاوى ، مطبوعة : بزم وقار الدين ، كراتشى